

کارل مارکس کے 130 سال بعد بھی

# مارکسزم

عہدِ حاضر کا واحد سچ

تحریر: ایلن ووڈز  
ترجمہ: اسد پٹانی

Ketabton.com

دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ!

## "Relevance of Marxism Today"

By: Alan Woods

’جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں‘

نام کتاب: مارکسزم، عہد حاضر کا واحد سچ

مصنف: ایلن ووڈز

مترجم: اسد پتانی

ایڈیشن: جون 2013ء

تعداد اشاعت: 2200

ناشر: طبقاتی جدوجہد پبلیکیشنز 105 منگل مینشن رائل پارک لکشمی چوک لاہور

فون: 042-36316214 فیکس: 042-36365659

پرنٹرز: یاسر عمیر پرنٹرز

صفحات: 104

قیمت: 200 روپے

e-mail: editor@struggle.com.pk

www.struggle.com.pk

# فہرست

7	پیش لفظ
16	مارکسی نظریات کی تصدیق
17	موجودہ عہد میں مارکسزم کی افادیت
19	بورژوا ماہرین کا نظریاتی ابہام
22	کیونٹ مینی فیسٹو
24	عالمگیریت اور نابرابری
27	بیروزگاری کا طاعون
30	زائد پیداوار کا بحران
31	بیگانگی
33	طبقاتی جدوجہد
35	خیال پرستی اور مادہ پرستی
38	مارکس اور ڈارون
40	تاریخی مادیت
43	تاریخ کی قوت محرکہ
45	تاریخ کی رنگارنگی
47	سماجوں کا عروج و زوال
51	ریاست
56	بورژوازی کا ابھار

مارکسزم کا بھونڈی تشریح

59

- 62 مارکسی فلسفہ
- 64 مارکس اور ہیگل
- 65 مارکس کا فلسفیانہ انقلاب
- 68 جدلیات کیا ہے؟
- 70 مقدار اور معیار
- 72 جدلیات، بمقابلہ تجربیت
- 74 جدلیات اور سائنس
- 78 دیوالیہ ہوتی دنیا
- 81 ”تمام راستے تباہی کا جانب“
- 84 ثقافت کو درپیش خطرہ
- 87 منصوبہ بند معیشت کی ضرورت
- 90 سوشلزم اور بین الاقوامیت
- 93 کیا کوئی متبادل نہیں ہے؟
- 95 واحد راستہ!
- 99 ضمیمہ: کارل مارکس کے ناقابل شکست نظریات

## پیش لفظ

ایک چوتھائی صدی انسانی زندگی میں تو شاید ایک طویل عرصہ ہو لیکن انسانی تاریخ میں یہ چند لمحوں سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ 1980ء کی دہائی میں عالمی سطح پر ہونے والے واقعات نے ایک ایسے عہد کو جنم دیا جو شاید جدید انسانی تاریخ کے رجعتی عہدوں میں شمار ہوتا ہے۔ چین میں افسر شاہی کے سرمایہ داری نواز گروہ نے 1978ء کے بعد چین میں منصوبہ بند معیشت کو ختم کرنے اور منڈی کی سرمایہ دارانہ معیشت کو دوبارہ استوار کرنے کا عمل شروع کیا۔ اسی طرح 1980ء کی دہائی کے اواخر میں مشرقی یورپ کے ممالک میں سٹالنزم کا انہدام دیوار برلن کا گرنا اور پھر سوویت یونین کا ٹوٹ جانا ایسے دیوقامت واقعات تھے جن کے دنیا بھر کے محنت کشوں اور نوجوانوں پر گہرے اور منفی اثرات مرتب ہوئے۔ سامراجی ذرائع ابلاغ نے ان واقعات سے قبل کی نصف صدی میں سوویت یونین، چین اور دوسرے سٹالنٹ ممالک کو ”سوشلسٹ“ اور ”کیونسٹ“ بنا کر پیش کیا تھا۔ اس میں نہ صرف ان ممالک کی حکمران ”کیونسٹ“ پارٹیوں، جو دراصل مراعات یافتہ آمرانہ افسر شاہیاں تھیں، نے کیونسٹ اور سوشلزم کے نام پر اپنے جاہلانہ اقتدار کو طوالت دی اور انہی ناموں کے ذریعے اپنی پیروکار کیونسٹ اور سوشلسٹ پارٹیوں کو دنیا بھر کے تمام ممالک میں اپنی عالمی حمایت کا آلہ کار بنا کر سوشلزم اور کیونسٹ کی مارکسی تعریف، تشریح اور شکل ہی بدل کر رکھ دی۔ سٹالنزم نے جو جرائم کئے اور ظلم و جبر کا جو کھلو اڑ کیا اس کو مارکسزم کے نام سے منسوب کیا جاتا رہا۔ لیکن ان کا یہ واردات کر جانا دو بنیادی وجوہات کی بنیاد پر ممکن ہو سکا تھا۔

پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اس سٹالنٹ جبر کے باوجود نجی ملکیت اور منڈی کی معیشت کی بجائے

یہاں کی ریاستی ملکیت اور منصوبہ بند معیشت قائم تھی یا ہوئی جس سے ان سماجوں میں بے پناہ ترقی حاصل ہوئی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد خصوصی طور پر ایک جانب سوویت یونین اور چین میں برق رفتار معاشی نمو اور دوسری جانب امریکہ، یورپ اور دوسرے ترقی یافتہ سرمایہ دارانہ ممالک میں جنگ کی تباہ کاریوں سے تعمیر نو کے لیے جو پیداوار کی کھپت ہوئی اس سے سرمایہ دارانہ نظام کی تاریخ کا سب سے بڑا عروج 73-1948ء تک آیا جس میں ترقی یافتہ ممالک کے محنت کشوں اور عام عوام کے معیار زندگی میں خاطر خواہ بہتری آئی۔ اس ”عملی“ اور ساری ترقی کی وجہ سے حقیقی مارکسی قوتیں تڑپ کر رہ گئیں۔ ترقیوں کے اس شور میں مارکسسٹوں کی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ ان حالات میں ایک طرف تو مغربی سامراجی میڈیا ان کو انتہا پسند گروہ گردان کر ان کی تضحیک اور تذلیل کرتا رہا اور دوسری جانب ٹرانسکی کے 1940ء کے قتل سے لے کر سوویت یونین کے انہدام تک مارکسسٹوں کے ساتھ ٹالسنٹ بیورو کرہیسی نے انتہائی بھیمانہ سلوک روا رکھا۔ روس نواز اور چین نواز کمیونسٹوں نے ان کو ہر سیاسی اور مزدور تحریک سے بے دخل کر دیا۔ لیکن نوآبادیاتی ممالک میں نہ صرف ان کا ناطقہ بند کر دیا گیا بلکہ ان پر قسم کا تشدد روا رکھا گیا۔ المیہ یہ ہے کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے اور چین میں وحشیانہ سرمایہ داری کی بحالی کے بعد یہی بڑے بڑے کمیونسٹ اور سوشلسٹ لیڈر سرمایہ داری کے آگے گھٹنے ٹیک کر مارکسزم کو مسترد کرنے والے پراپیگنڈے کی یلغار کے ہر اول جغادری بن گئے۔ اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جن مارکسسٹوں کو یہ ٹالسنٹ سی آئی اے کے ایجنٹ قرار دیتے تھے انہی مارکسسٹوں کو آج ٹالسنٹ کے تمام تر جرائم کے باوجود سوویت یونین، چین اور دوسرے ٹالسنٹ ممالک میں ہونے والی ترقی کو محنت کشوں اور نوجوانوں کے سامنے پیش کر کے منصوبہ بند اور سوشلسٹ معیشت کی منڈی کی سرمایہ دارانہ معیشت پر برتری اور اس سماجی افادیت کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے۔

مارکسزم بنیادی طور پر تناظر کی سائنس ہے۔ واقعات کے جنم لینے کے بعد ان کا تجزیہ پیش کرنا مارکسی علم کی توہین ہوتی ہے۔ سوویت یونین کے انہدام کی پیش گوئی سب سے پہلے اس کے بانیوں نے کی تھی۔ لیکن نے مختلف تقاریر اور مضامین میں سوویت یونین کے انہدام کی وجوہات

اور شرائط اس واقعے کے رونما ہونے سے 70 سال پہلے کر دی تھی۔

مثلاً جولائی 1921ء میں لینن نے کمیونسٹ انٹرنیشنل (تیسری انٹرنیشنل) کی مجلس عاملہ کے اجلاس میں ایک تقریر میں کہا ”برلن جرمنی کا دل ہے اور جرمنی یورپ کا دل ہے۔ اگر جرمنی میں سوشلسٹ انقلاب کامیاب نہیں ہوتا تو پھر سوویت یونین کا انہدام ناگزیر ہو جائے گا۔“ اسی طرح ٹرانسکی کی بے شمار ایسی تحریریں ملتی ہیں جن میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کی وجوہات اور عناصر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ 1936ء میں لکھی گئی ٹرانسکی کی شہرہ آفاق کتاب ”انقلاب سے غداری“ میں انقلاب کی طرح انقلاب کی زوال پذیری اور اس سے جنم لینے والے انہدام کو مارکسی سائنس کے حوالے سے ٹھوس دلائل کے ذریعے واضح کیا گیا تھا۔ اس کے 50 سال بعد جو واقعات رونما ہوئے یہ کتاب تقریباً ان کا ہو بہو مکمل سکرپٹ تھی۔ ٹیڈ گرانٹ نے 1943ء میں ایک وسیع تحریر ”ریاست کی مارکسی تھیوری“ میں بھی اس انہدام کا واضح تناظر پیش کیا تھا۔ اسی طرح ٹیڈ گرانٹ نے 1947ء میں چینی انقلاب کے فتح مند ہونے سے 2 سال قبل جو تناظر پیش کیا تھا چین میں اکتوبر 1949ء کے بعد ہونے والے واقعات نے اس کو درست ثابت کیا۔ جب کہ اس انقلاب کے لیڈر ماؤ زے تنگ نے اگست 1949ء میں انقلاب چین کے مقاصد اور جو تناظر پیش کیا تھا، کہ انقلاب کے بعد سو سال تک سرمایہ داری رہے گی، غلط ثابت ہوا اور لندن میں بیٹھے ہوئے ٹیڈ کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی کیونکہ جب پیکنگ، نان چنگ اور دوسرے شہروں میں سرخ فوج کے داخل ہوتے ہی صنعتی پرولتاریہ انقلاب میں داخل ہوا تو انہوں نے سامراجی اور قومی صنعتوں پر قبضے کر لیے اور ماؤ کو چین میں اپنے نظریات اور تناظر کے برعکس سرمایہ داری کا خاتمہ کرنا پڑ گیا تھا۔ اگر ہم چین میں سرمایہ داری کی بحالی اور اس سے ابھرنے والے بحران جواب شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کے بارے میں IMT کی دستاویزات اور تجزیوں کا جائزہ لیں تو ایک مرتبہ پھر جنم لینے والے واقعات ان کو تاریخ کی کسوٹی پر درست اور سچا ثابت کر رہے ہیں۔

لیکن جہاں سوویت یونین اور چین کے بارے میں مارکسسٹوں کے تناظر درست ثابت ہوئے ہیں وہاں عالمی سرمایہ داری کے بارے میں بھی ان کی پیش گوئیاں تاریخ نے سچ ثابت کی ہیں۔

2008ء میں ہونے والا سرمایہ داری کا بحران اس کی تاریخ کا سب سے بڑا کریش تھا۔ اس کے بعد دنیا بھر میں جو سماجی تباہی آئی ہے اور آ رہی ہے اس کا تناظر کامریڈ ٹیڈ گرانٹ نے پہلے ہی میں ہونے والی انٹرنیشنل کی میٹنگ میں بہت ہی واضح انداز میں پیش کر دیا تھا۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ اور دنیا بھر کے بڑے بڑے ناموں والی یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے ناموں والے معیشت دان اور پروفیسر حضرات سرمایہ داری کے اس تاریخی زوال کی نشاندہی نہیں کر سکے تھے۔ بلکہ ان کی اکثریت کے لیے یہ ایک حیران کن صدمہ تھا کہ جس نظام کو انہوں نے تاریخ کا اختتام قرار دیا تھا وہی نظام ان کے سامنے ان کی زندگیوں میں ہی دھڑام سے گرا اور منہدم ہو رہا ہے۔ اس پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو سرمایہ دارانہ نظام امریکہ اور یورپ جیسے اپنے عروج کے معاشروں میں ایک شدید تنزلی کا شکار ہے۔ 2008ء کے معاشی انہدام کے بعد کے پانچ سالوں میں بیروزگاری 1930ء کے عظیم بحران کے دور کی سطح تک پہنچ چکی ہے، نوجوان محنت کشوں کی اجرتوں میں کمی ہوئی ہے اور ان کے لیے تعلیم کے مواقع ختم ہو رہے ہیں۔ مئی 2013ء میں یونان میں 15 سے 24 سال تک کے نوجوانوں میں بیروزگاری کی شرح 64.2 فیصد تک پہنچ چکی تھی جو مارچ 2012ء میں 54.1 فیصد تھی۔ اس سال مارچ میں اسپین میں نوجوانوں میں بیروزگاری کی شرح 55.9 فیصد جبکہ اٹلی میں 38.4 فیصد تھی۔ مستقبل میں بھی بہتری کی کوئی امید نہیں اقوام متحدہ کے ادارے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق آئندہ پانچ سالوں میں بھی نوجوانوں میں بیروزگاری کی شرح میں اضافہ ہوگا۔ ترقی یافتہ ممالک میں وہ نوجوان جو نہ تو تعلیمی اداروں میں ہیں اور نہ روزگار پر ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ان کی شرح 15.8 فیصد سے زیادہ ہے۔ یورپ میں وہ نوجوان جو نوکری کر رہے ہیں ان میں سے بھی 40.8 فیصد عارضی ٹھیکے پر کام کر رہے ہیں۔

دوسری جانب پسماندہ اور نام نہاد ”ترقی پذیر“ ممالک میں اس بحران کا حشر زیادہ بھی اتنا سماجی بربادی کی صورت میں سامنے آرہا ہے۔ 2008ء میں جب ”پرانے“ ترقی یافتہ سرمایہ دارانہ ممالک میں یہ کریش آیا تو بہت سے سرمایہ دارانہ ماہرین نے یہ دلیل پیش کی کہ عالمی



سرمایہ داری کو ”ابھرتی“ ہوئی معیشتیں، جن میں برازیل، روس، ہندوستان، چین اور جنوبی افریقہ کو شامل کیا جا رہا تھا، اس کو سہارا دے کر مستحکم بنائیں گی۔ لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ یہ تمام معیشتیں بھی بری طرح متزلزل کا شکار ہیں اور ان ملکوں کی بلند اور تیز شرح نمو ان ممالک میں موجود غربت میں بھی قطعاً کوئی کمی نہیں لارہی تھی اور وہ بھی اب تیزی سے گر گئی ہیں۔ ان تمام ممالک میں پیداوار، معاشی ترقی اور شرح نمو آدھی سے بھی کم رہ گئی ہیں۔

مارکسزم نے سب سے پہلے سرمایہ دارانہ نظام کے ارتقا کا جائزہ لیتے ہوئے یہ تناظر پیش کیا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام قومی معیشتوں سے نکل کر ایک عالمی معیشت میں منتقل ہو جائے گا۔ اس لیے حالیہ گلوبلائزیشن کوئی نئی چیز نہیں بلکہ 1914ء میں شاید اس سے زیادہ معاشی عالمگیریت جنم لے چکی تھی۔ ہم ایک عالمی معاشی اکائی میں رہ رہے ہیں۔ ایک عالمی منڈی ہے جس کا ایک کچل دینے والا جبر اس عالمی منڈی کے ہر سیاسی اور ریاستی یونٹ پر مسلط ہے۔ سرمایہ داری نظام میں رہتے ہوئے کوئی ملک، کوئی خطہ، کوئی سماج اس جبر، استحصال اور سامراجی لوٹ کھسوٹ سے بچ نہیں سکتا۔ 183 اجارہ داریاں دنیا کی 85 فیصد معیشت کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اس جکڑ کو سامراجی مالیاتی ادارے خصوصاً غریب ممالک کی معیشتوں کو اپنے قبضے میں لے کر مزید مضبوط کرتے ہیں۔ اس پس منظر میں اگر پاکستان کی معیشت کا جائزہ لیا جائے تو اس کی حالت زار پر خود اس پر حاکمیت کرنے والے چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ اس ملک کی مجموعی پیداوار اور دولت کا تقریباً 70 فیصد صرف سامراجی قرضوں کے سود اور ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ فوجی اسلحے اور تباہی کے آلات پر صرف ہوتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان دنیا کے سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والے 6 ممالک کی لسٹ میں آتے ہیں جبکہ صحت، تعلیم، نکاس، پانی اور دوسری سماجی ضروریات کی لسٹ میں دنیا کے آخری 6 ممالک میں آتے ہیں۔

یوسف کے ایک سروے کے مطابق پاکستان میں غذائی قلت کا شکار 5 سال سے کم عمر 44 فیصد بچے کبھی ایک مکمل انسان نہیں بن پائیں گے یعنی ان کی "Stunted Growth" ہوئی ہے۔ یہ بچے بڑے ہو کر اپنی اگلی نسل جیسی قامت اختیار نہیں کر پائیں گے یعنی صرف پندرہ

سال بعد پاکستان کی آدمی آبادی کے قدامت پسند نسل کے باقی افراد کی نسبت چھوٹے ہوں گے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی 60 فیصد آبادی خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے اور تقریباً 21 فیصد غذائی ضروریات کے حصول میں قحط کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسی بینک کی ایک اور رپورٹ کے مطابق 15 سال سے زائد عمر کے 50 فیصد افراد بیروزگار ہیں۔ بڑھتی ہوئی افراطِ زر مزید غربت کو جنم دے رہی ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے مطابق غذائی اجناس کی قیمتوں میں ہونے والا 10 فیصد اضافہ 2.2 فیصد یعنی 34 لاکھ مزید پاکستانیوں کو سطحِ غربت سے نیچے دھکیل دیتا ہے اور گزشتہ چند ماہ میں غذائی اجناس کی قیمتوں میں 20 فیصد تک اضافہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 69 لاکھ لوگ غربت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گئے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر روز مزید 30 ہزار سے زائد افراد غربت کی لکیر سے نیچے گرتے ہیں۔

پاکستان میں 78 فی صد آبادی انتہائی غربت میں رہ رہی ہے، 82 فیصد غیر سائنسی علاج کروانے پر مجبور ہیں۔ 60 فی صد بچے سکول نہیں جاسکتے۔ ہر سال 5 لاکھ خواتین زچگی کے دوران طبی سہولیات کی عدم فراہمی کی وجہ سے ایک نئی زندگی کو جنم دیتے ہوئے اپنی ہی زندگانی کھودیتی ہیں۔ ہر ایک ہزار افراد کے لیے ہسپتال میں 0.6 بستر ہیں۔ 52 فیصد آبادی کے پاس بیت الخلاء کی سہولت نہیں ہے۔ بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ، ریلوے اور تمام دوسرے سماجی و صنعتی انفراسٹرکچر کے شعبے گل سر کڑوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ قومی مسئلہ حل ہونے کے بجائے ایک خونریز پھینڈگی میں داخل ہو گیا ہے۔ جس سے انتشار شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ریاست میں مذہبی جنون شدت سے سرایت کر چکا ہے، جس سے ریاست کا ہر ادارہ تعصب اور رجحانیت کا شکار ہے۔ جمہوریت یہاں صرف دولت والوں اور سامراج کے دلالوں کی لونڈی بن کر رہ گئی ہے۔ یہ امیروں کے لیے ایک عیاشی، ایک کھلوٹ اور مزید دولت لوٹنے کا اوزار ہے جبکہ محنت کشوں کے لیے یہ محض ایک دھوکہ، ایک فریب ہے۔ جاگیرداری یہاں ایک مستح شدہ شکل میں ہے۔ یہاں بیشتر بڑی جاگیریں بینکوں میں گروی رکھی جا چکی ہیں اور ان کے عوض حاصل کی جانے والی دولت سے اس نیم

جاگیردارانہ، نیم سرمایہ دارانہ سماج کا حکمران طبقہ اپنی عیاشیوں اور بدکاریوں میں مشغول ہے۔ پاکستان کی کل معیشت میں سفید یا سرکاری معیشت کا حصہ 30 فی صد سے بھی کم ہے۔ 70 فی صد کالا دھن منشیات کے کاروبار، سمگلنگ، بدعنوانی اور دوسرے مجرمانہ ہتھکنڈوں سے حاصل ہوتا ہے۔ مذہبی دہشت گردی اس کی پیداوار اور اس کی محافظ بھی ہے۔ اس ریاست کے تمام اداروں میں کالے دھن کی سرایت سے ریاست اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے اور یہ کالا دھن اس ریاست کے مختلف گروہوں کے درمیان اختیارات اور تصادموں کا باعث بن رہا ہے۔ سیاست میں اس کی سرایت بھی اسی نوعیت کے نتائج کی حامل ہے اور اس سیاست کو کالا دھن خرید کر اس کو اپنے حجم اور جرائم میں اضافے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ کالی معیشت پاکستان میں 72.8 فی صد روزگار فراہم کرتی ہے۔ پاکستان کی سرکاری معیشت کی شرح نمو تقریباً 2 فی صد ہے جبکہ کالی معیشت 9 فی صد کی شرح سے نمو پا رہی ہے۔ لیکن یہ صنعتی اور پیداواری صنعتوں میں نہیں لگائی جاتی بلکہ سروسز کے شعبوں، تعمیرات، ہاؤسنگ اور ٹرانسپورٹ وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح تعلیم اور علاج کے شعبوں میں اس کالے دھن کی سرمایہ کاری بہت بڑی شرح منافع کے حصول کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

یہاں آنے والی ہر سیاسی یا فوجی حکومت اور ریاستی بیوروکریسی اپنے تاریخی استرداد کی وجہ سے سامراجی گماشتگی کر رہی ہے۔ فوجی آمریت ہو یا سوشلیزم جمہوریت اصل طاقت اور جبر جس کے نیچے یہ سماج سلگ رہا ہے وہ مالیاتی سرمائے کا ہے۔ جس کا پھر بڑا حصہ مجرمانہ کالے دھن پر مبنی ہے۔ لیکن جو معاشی پالیسیاں ہر حکومت بناتی ہے وہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دوسرے سامراجی مالیاتی اداروں کے نسخوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ جس کا مقصد سامراجی اجارہ داریوں اور سرمایہ داری کے منافعوں میں تیز ترین اضافہ اور محنت کشوں کے روزگار اور زندگیوں کو مزید اذیت ناک بنانا ہی ہو سکتا ہے۔ مستقل ملازمتوں کو ختم کر کے ٹھیکیداری نظام کو رائج کرنا، نجکاری کے ذریعے بیروزگاری، لبرلائزیشن کے ذریعے اجارہ داریوں کو منافعوں اور دولت کی بلا روک رکاوٹ ترسیل، ڈی ریگولیشن کی پالیسی کے ذریعے بینکوں کو قرضے دینے اور مختلف سیکٹروں کے ذریعے انتہائی منافع بخش

کاروبار کرنے کی کھلی چھوٹ جیسے ننحوں کے ذریعے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں کا حکمران طبقہ یہاں سرمایہ دارانہ یا قومی جمہوری انقلاب کا کوئی ایک فریضہ بھی مکمل نہیں کر سکا جس سے انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے جرائم پسماندگی، غربت اور محرومی کے سمندر میں تضادات کو تیز سے تیز تر کر رہے ہیں۔ ان تضادات کے پھٹنے سے یہاں 1968-89ء کا انقلاب برپا ہوا تھا۔ ایک طرف تیز ترین صنعت کاری ہو رہی تھی اور دوسری جانب یہ صنعت کاری سماجی ترقی نہیں کر رہی تھی جس سے یہ انقلاب پھٹا تھا۔ ایک مارکسی قیادت اور پارٹی کے فقدان کی وجہ سے یہ انقلاب ایک سوشلسٹ فتح سے ہمکنار نہیں ہو سکا تھا۔ آج وہی تضادات کہیں زیادہ شدید اور اذیت ناک ہو چکے ہیں۔ قومی جمہوری انقلاب کے فرائض یہاں کا حکمران طبقہ پورے نہیں کر سکتا۔ سرمایہ داری میں یہ ممکن ہی نہیں۔ صرف بیروزگاری کی بڑھتی ہوئی شرح کو روکنے کے لئے ہر سال 13 لاکھ نئے روزگار پیدا کرنا ضروری ہیں، دیوالیہ پن سے بچنے کے لئے ہر سال پاکستان کی معیشت کو 7 سے 8 فیصد کی شرح نمو درکار ہے، جس کے لئے ہر سال ساڑھے تین کھرب روپے درکار ہیں۔ جو پاکستان کے GDP کے دو گنا سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان کا سرمایہ دارانہ نظام اتنا گل سڑ چکا ہے کہ یہ کسی روشن خیالی اور ترقی پسندی کی بجائے رجعتیت اور مذہبی جنون کو جنم بھی دے رہا ہے اور اپنے تسلط کو قائم رکھنے کے لیے اس مذہبی دہشت گردی کے ذریعے محنت کشوں کے خون سے ہولی بھی کھیل رہا ہے۔

جہاں معیشت اور سماج گل سڑ چکے ہیں وہاں ریاست، سیاست، صحافت، ثقافت، اخلاقیات اور ماحولیات بھی انتہائی بوسیدہ اور تعفن آمیز شکل اختیار کر گئے ہیں۔ اس صورت حال میں یہ نظام اس معاشرے کو تیزی سے بربریت کی جانب دھکیل رہا ہے۔ یہ نظام اس سماج کے جسم میں ایک ناسور بن گیا ہے جس کو ایک انقلابی جراحی سے ہی چیر کر باہر پھینکا جاسکتا ہے۔ تمام ادارے جس تنزلی اور خشکی کا شکار ہو چکے ہیں ان کا وجود یہاں کے سماج پر ایک بدبودار لاش کا بوجھ بن کر رہ گیا ہے۔ اس کیفیت میں پاکستان میں سوشلسٹ انقلاب کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے جس سے اس معاشرے کی لوٹی ہوئی دولت سامراجی اثاثوں اور حکمرانوں کی بیہودہ استحصالی

رقوم کو ضبط کیا جاسکے گا۔ ملکیت کے رشتوں کو نجی اور انفرادی ملکیت سے نکال کر یکسر اشتراکی ملکیت میں دینے سے ہی اجتماعی ترقی ممکن ہے۔ ان میں صنعت و حرفت، زراعت اور تمام حاوی معیشت کے شعبے آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پھر ایک انقلابی تحریک ابھرے گی۔ لیکن اس تحریک کی فتح اور کامیابی کے لیے ایک مارکسی لینن اسٹ پارٹی درکار ہے۔ کیونکہ یہی پارٹی وہ اوزار ہوتی ہے جس کے ذریعے محنت کش طبقہ ایک فیصلہ کن فتح سے سرفراز ہو سکتا ہے۔ یہ پارٹی درحقیقت ریاست کے اندر ایک ریاست ہوتی ہے۔ جو انقلاب کے بعد مزدوروں کی سوشلسٹ ریاست بنتی ہے۔ لیکن ایک انقلابی پارٹی سب سے پہلے ایک نظریہ ہوتی ہے۔ یہ نظریہ صرف مارکسزم ہی ہے۔

آج دنیا بھر میں جہاں ایک عہد بدل رہا ہے۔ نئی تحریکیں پھوٹ رہی ہیں، وہاں مارکسزم کا بھی احیا ہو رہا ہے۔ اس کتاب کو چھاپنے کا مقصد اس نئی نسل کو مارکسزم کے ان نظریات سے روشناس کروانا ہے جس پر عبور حاصل کر کے ہی وہ کیڈر بن سکیں گے جو یہاں برپا ہونے والے سوشلسٹ انقلاب کی قیادت کر کے اس کو فتح یاب کریں گے۔

لال خان

لاہور، جون 2013ء

## مارکسی نظریات کی تصدیق

مارکس کے نظریات کی جتنی ضرورت اور مطابقت آج ہے، اتنی شاید کبھی بھی نہیں تھی۔ اس کا اظہار موجودہ عہد میں مارکسی نظریات کے لئے تڑپ، تجسس اور جستجو سے ہوتا ہے۔ مشکل سے کوئی ایک دن ہی ایسا ہوگا کہ جب مارکس کا تذکرہ نہ ہوتا ہو یا اس کا حوالہ نہ دیا جاتا ہو۔ خاص طور پر جب سرمایہ دارانہ بحران کا معاملہ زیر بحث ہو۔ اس وقت کہ جب سرمائے کے حکمت ساز کسی بھی سرمایہ دارانہ بحران کے امکان کو ہی مسترد کر رہے ہوتے ہیں اور جیسا کہ ماضی میں وہ ایک نئے عہد کی باتیں کرتے نہیں تھکتے تھے، اس دوران یہ مارکسسٹ ہی تھے جو کہ سرمایہ دارانہ طرز پیداوار کے قوانین کے بارے میں اپنا نکتہ نگاہ پیش کر رہے تھے، قوانین جو کہ اس دوران کارفرما تھے بلکہ جن کی وجہ سے تضادات بھی پرورش پاتے چلے جا رہے تھے۔ حالت یہاں تک تو پہنچ چکی ہے کہ جریدے فنانشل ٹائمز کو ”سرمایہ دارانہ نظام کا بحران“ پر سلسلہ وار مضامین شائع کرنے پڑ گئے۔ لیکن یہ لوگ ابھی تک یہ ماننے کیلئے تیار نہیں ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کی بھی کوئی ”حدود و قیود“ ہو سکتی ہیں۔ سرمایہ داری کا یہ نامیاتی بحران ایک عمومی بحران سے قدرے مختلف ہے جو نظام کی مکمل متروکیت کی عکاسی کرتا ہے اور نہ صرف قومی ریاست بلکہ نجی ملکیت کی محدودیت کے خلاف

پیداواری قوتوں کی بغاوت کا اظہار ہے۔ یہ بحران نظریات، اخلاقیات، مذہبی اقدار، سیاسی پارٹیوں اور انتظامی ڈھانچے کے بحران میں اپنا اظہار کر رہا ہے، دوسرے لفظوں میں طرز حکمرانی اور حکمرانی کے تمام اداروں کے بحران کی شکل میں۔ اس قسم کی کیفیت میں یہ صرف مارکسزم ہی ہے جس کے نظریات فروغ پاسکتے ہیں اور پارہے ہیں۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس وسیع عمل میں اپنا کردار ادا کریں اور اپنے قارئین کو ان بڑے واقعات کیلئے تیار کریں جو آنے والے وقت میں اپنا اظہار کرنے والے ہیں۔

## موجودہ عہد میں مارکسزم کی افادیت

130 سال پہلے کارل مارکس کی وفات ہوئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیونکر ایک ایسے انسان کو یاد کرتے ہیں جو 1883ء میں فوت ہو گیا۔ بیسویں صدی کی ساٹھ کی دہائی کی ابتدا میں اس وقت لیبر پارٹی کے برطانوی وزیر اعظم ہیرالڈ ولسن نے کہا تھا کہ ہمیں کسی طور بھی خود کو درپیش مسائل کے حل کیلئے لندن کے ہائی گیٹ قبرستان میں موجود قبر کی طرف نہیں دیکھنا چاہئے جہاں کارل مارکس دفن ہے۔ کوئی احمق ہی ہوگا جو ہیرالڈ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرے گا۔ واقعہ بھی یہی ہے کہ مذکورہ بالا قبرستان میں آپ کو پرانی ہڈیاں، خاک اور بوسیدہ ہو چکے کتبے کے علاوہ مل بھی کیا سکتا ہے! تاہم جب بھی ہم کارل مارکس کی آج کے وقت اور عہد کے ساتھ مطابقت اور وابستگی کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد کوئی قبرستان نہیں بلکہ نظریات ہوتے ہیں اور نظریات بھی ایسے کہ جو بار بار وقت اور سماج کی کسوٹی پر پرکھے جا چکے اور اپنی قدر و منزلت اور اہمیت قائم رکھے ہوئے ہیں، یہی نہیں بلکہ آج بھی یہ نظریات سرخروئی اور فتح مندی سے سرشار کیفیت میں دوبارہ سامنے آرہے ہیں۔ حتیٰ کہ مارکسزم کے دشمن بھی بادل نخواستہ اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ 2008ء کے معاشی انہدام نے واقعی یہ ثابت کر دیا کہ کچھ نہ کچھ ”متروک“ ہوا ہے لیکن یہ سرمایہ داری تھی نہ کہ کارل مارکس۔

کئی دہائیوں سے معاشی ماہرین کے منہ یہ جگالیاں کرتے کرتے تھک چکے تھے کہ کارل مارکس کی معاشی انہدام کی پیش گوئیاں مکمل طور پر ناکام ثابت ہو چکی ہیں۔ انہیں انیسویں صدی کے نظریات قرار دے کر فرسودہ کہا گیا اور وہ سب لوگ جو کہ مارکس کے ان نظریات کی علمبرداری کرنے میں لگے ہوئے تھے، وہ سب مایوس قنوطیت پسند اور بڑبڑولے سمجھے جا رہے تھے۔ لیکن آج ان سب پر یہ بھید کھلا ہے کہ یہ تو سرمایہ دارانہ نظام کا دفاع اور نمائندگی کرنے والے لوگ ہی ہیں جو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکے جا رہے ہیں، جبکہ مارکس آج بھی سماجی حالات اور انسانی شعور میں کہیں نہ کہیں جاگزیں ہے۔

زیادہ عرصہ نہیں گزرا، برطانوی وزیر اعظم گورڈن براؤن نے بڑے گھمنڈ سے کہا تھا کہ معاشی عروج و زوال (Boom & Bust Cycles) کا کھیل ہمیشہ کیلئے ختم ہو چکا ہے۔ لیکن جلد ہی 2008ء کا انہدام سامنے آ گیا اور براؤن کو اپنے الفاظ نکلنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یورو کا بحران یہ عیاں کرتا ہے کہ بورژوازی کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یونان، اٹلی اور سپین کے مسئلے کا کیا اور کیسے حل نکالے! جس کی وجہ سے نہ صرف یورپ کی مشترکہ کرنسی بلکہ خود یورپی یونین کا وجود ہی داؤ پر لگ چکا ہے۔ یہ معاملہ بہت آسانی سے ایک عالمگیر سطح کے نئے زوال کا عمل انگیز بن سکتا ہے جو کہ 2008ء سے بھی زیادہ شدید اور گہرا ہوگا۔ حالت یہ ہے کہ کئی بورژوا ماہرین بھی اسے قبول کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں جو نوشتہ دیوار کی مانند سامنے آ رہا ہے اور وہ یہ کہ سرمایہ دارانہ نظام کے اپنے اندر ہی ایسے بیج موجود ہیں جو اس کی تباہی کا موجب بنتے ہیں اور یہ بھی کہ یہ ایسا منتشر المراج قسم کا نظام ہے جو کہ اپنے وقتاً فوقتاً اندرونی بحرانوں سے لوگوں کو کام سے محروم کرتا اور سیاسی و سماجی عدم استحکام کو فروغ دیتا ہے۔ حالیہ بحران کے بارے میں تصور تھا کہ یہ ”ناممکن“ ہو گا۔ کچھ عرصہ پہلے تک ہی معاشی ماہرین کا یہ ایمان تھا کہ اگر منڈی کو آزادانہ اپنے طور طریقوں سے کام کرنے دیا جائے تو یہ جاوڈی اثرات مرتب کرتے ہوئے نہ صرف سبھی درپیش مسائل کو حل کر دے گی بلکہ یہ طلب اور رسد کے مابین ایسا توازن پیدا کر لے گی کہ جسے معیاری منڈی کا نمایاں وصف سمجھا جاتا ہے۔ ایسا ہو جانے کے بعد ان کو یقین تھا کہ اب دنیا میں دوبارہ کوئی



1929ء جیسا عظیم زوال سامنے نہیں آئے گا۔

مارکس نے زائد پیداوار کے بحران کی جو پیش گوئی کی تھی، اسے بزمِ خویش تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا گیا تھا اور وہ لوگ جو کہ مارکس کے ان خیالات کو درست سمجھتے تھے اور سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ سرمایہ دارانہ نظام اندرونی اور ناقابلِ حل تضادات کا حامل ہوا کرتا ہے اور یوں اپنے اندر ہی اپنی تباہی کے بیج بوتا اور پھر اسے پروان چڑھاتا ہے، ایسے لوگوں کی اہانت و تضحیک کرنا ایک معمول بنا دیا گیا تھا۔ ان کے بقول سوویت روس کا انہدام واضح طور پر یہ ثابت کر چکا کہ کمیونزم نام کام ہو چکا ہے اور یہ کہ تاریخ اپنا یہ حتمی فیصلہ سنا چکی کہ سرمایہ دارانہ نظام ہی اب نسل انسانی کیلئے واحد ممکنہ سماجی و معاشی نظام ہے۔ لیکن صرف بیس سالوں کے قلیل عرصے میں جو کہ انسانی سماج کی تقویم میں اتنا زیادہ وقت بھی نہیں ہے، تاریخ کا پہلے ایک سوا سی درجے کے زاویے سے الٹ چل پڑا ہے۔ اب مارکس اور مارکسزم کے خلاف ہمہ وقت تنقید کرنے والے ایک بالکل ہی الگ نوعیت کا راگ الاپنا شروع ہو چکے ہیں۔ ”اچانک“ ہی کارل مارکس کے معاشی نظریات کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھا اور پڑھا جا رہا ہے۔ کئی معاشی ماہرین تو اس جستجو میں مارکس کی لکھتوں پر سر رکھ کے سو جاتے ہیں کہ وہ وجوہات تلاش کر سکیں کہ آخر غلطی کہاں ہے اور کیا غلط ہے!

### بورژوا ماہرین کا نظریاتی ابہام

حالیہ بحران کے شروع ہو جانے کے بعد جولائی 2009ء میں جریدے ”اکانومسٹ“ نے لندن میں ایک کانفرنس منعقد کی جس کا مقصد معیشت میں موجود خرابی کو سمجھنا تھا کہ یہ ہے کیا اور کہاں ہے۔ اس سے یہ صاف عیاں ہوتا ہے کہ معیشت کے نظریہ ساز معاشی فلسفے سے کس قدر بے بہرہ اور نابلد ہیں۔ نوبل انعام یافتہ ماہر معیشت پال کرسٹین نے ایک عجیب اعتراف کیا اور کہا کہ ”پچھلے تیس سالوں کے دوران میکرو اکنامکس کی ترقی اپنے ”بہترین“ نتائج میں بالکل بے سود اور اپنے ”بدترین“ ادوار میں تباہ کن ہے۔“ یہ فیصلہ بورژواطرز معیشت کے نظریات کی بالکل درست عکاسی کرتا ہے۔

اب جبکہ واقعات نے کئی ایک بورڈ واماہرین کو اپنے سرکھانے اور سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی مضامین جو لکھے جا چکے ہیں، ان میں یہ بات طوعاً و کرہاً تسلیم کرنی پڑ رہی ہے کہ مارکس بہر حال صحیح تھا۔ یہاں تک کہ دنیا میں عیسائیت کے مرکز و بیٹی کن کے سرکاری جریدے "L'Osservatore Romano" نے 2009ء میں مارکس کی تعریف کی کہ اس نے آمدنیوں میں نابرابری کی درست تشخیص کی تھی۔ یہ ایک ایسے شخص کیلئے خراج ہے کہ جس نے مذہب کو عام انسانوں کی افیون قرار دیا تھا۔ اس وقت مارکس کی کتاب "سرمایہ" جرمنی کی "سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب" ہے جبکہ جاپان میں بھی اسے شایان شان طریقے سے شائع کیا گیا ہے۔ USB بینک کے ایک سینئر معاشی تجربہ نگار جارج میکنسن نے ایک مضمون "عالمی معیشت کو بچانے کیلئے کارل مارکس کو موقع دیا جائے" کے عنوان سے لکھا ہے۔ سوئٹزر لینڈ کا یہ بینک عالمی مالیاتی انتظام و انصرام کا اہم ستون سمجھا جاتا ہے۔ اس کے دنیا بھر میں پچاس سے زائد ملکوں میں دفاتر ہیں اور یہ دو کرب ڈالرز کے حامل اثاثوں کا مالک ہے۔ جریدے "بلوم برگ ویو" کیلئے لکھے گئے ایک اور مضمون میں میکنسن نے لکھا ہے کہ "آج کی عالمگیر معیشت بالکل انہی کیفیات سے مماثلت اور مشابہت رکھتی ہے جن کی پیش گوئی مارکس نے کی تھی"۔ اپنے اس مضمون کی ابتدا میں وہ مالیاتی کرب ناکوں، ان کی وجہ سے ہونے والے احتجاجوں اور دنیا پر مرتب ہونے والے دیگر مضر اثرات کے اسباب و عوامل کو سمجھنے کی ننگ و دو کرنے والے مالیاتی پالیسی سازوں کو تلقین کرتا ہے:

"آپ سب کو بہت عرصہ پہلے مرجانے والے ماہر معیشت کارل مارکس کا اچھی طرح مطالعہ کرنا ہوگا۔۔۔ مثال کے طور پر، ذرا مارکس کی اس پیش گوئی پر توجہ دیجیے کہ کیسے سرمائے اور محنت کے مابین موروثی تضاد اور تنازعہ اپنا اظہار کرے گا! جیسا کہ اس نے "سرمایہ" میں لکھا ہے کہ کمپنیوں کی منافعوں اور پیداواریت میں اضافے کیلئے دوڑ دھوپ فطری طور پر انہیں مجبور کر دے گی کہ وہ کم سے کم محنت کشوں کو کام پر رکھیں۔ جس کے نتیجے میں ایک صنعتی ریزرو فوج پیدا ہوتی چلی جائے گی جو کہ غریبوں اور بیروزگاروں پر مشتمل ہوگی۔ ایک طرف دولت کا ارتکاز ہوگا تو دوسری

طرف اسی دوران محرومی کا بھی ارتکاز ہوتا چلا جائے گا۔“  
میکلس اپنی بات بڑھاتے ہوئے کہتا ہے:

”مارکس کا نشانہ ہی کردہ یہ عمل اس وقت ہم ساری ترقی یافتہ دنیا میں وقوع پذیر ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ خاص طور پر امریکی کمپنیوں میں یہی کیفیت ہے۔ جو اپنی لاگت کو کم کرنے اور روزگار دینے سے احتراز کر رہی ہیں۔ اس کے باعث امریکہ میں کارپوریٹ منافع، مجموعی معاشی پیداوار کے ضمن میں پچھلے ساٹھ سالوں کی بلند ترین شرح کو پہنچ چکا ہے۔ جبکہ بیروزگاری کی شرح 9.1 فیصد کو چھو رہی ہے اور حقیقی اجرتیں منجمد ہیں۔“

”1920ء کی دہائی کے بعد سے اجرتوں میں نا برابری کی شرح بلند ترین سطح پر ہے۔ 2008ء سے پہلے آمدنی کے بارے تشویش کو آسان قرضوں جیسے طریقوں کے تحت دبا دیا گیا کہ جن کی وجہ سے ایک عام شہری کو بھی ایک بہتر معیار زندگی سے استفادہ ہوتا رہا لیکن اب یہ عمارت بھی دھڑام ہو چکی ہے۔“

جریدے ”وال سٹریٹ جرنل“ نے معروف معیشت دان ڈاکٹر نورائیل روبینی جسے اس کے ہم عصر معیشت دان ”ڈاکٹر ڈوم“ (کالی زبان والا) بھی قرار دیتے ہیں کیونکہ موصوف نے 2008ء کے مالیاتی بحران کی پیش گوئی کی تھی، کے ساتھ ایک انٹرویو کیا۔ اس انٹرویو کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی دستیاب ہے جسے انتہائی توجہ اور احتیاط سے دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ سرمائے کی انتہائی دور بین اور صاحب بصیرت حکمت ساز کیا سوچ رہے ہیں! روبینی کا ماننا ہے کہ قرضے کی زنجیر ٹوٹ چکی ہے اور سرمایہ دارانہ نظام ایک بڑے چنگن چکر میں پھنس چکا ہے۔ بڑھی ہوئی صلاحیت یعنی زائد پیداوار بیت، گرتی ہوئی صارفیت کی گرتی ہوئی طلب اور قرضوں کی بلند ترین شرح، ان سب نے مل کر سرمایہ کاروں کے اعتماد کو کمزور کر دیا ہے اور یہ سب کچھ اپنا اظہار سٹاک مارکیٹوں کے تیز انہدام، اثاثوں کی قیمتوں میں تیز گراؤوں اور حقیقی معیشت کے انہدام کی شکل میں کرے گی۔ تمام دوسرے معاشی ماہرین کی طرح سے روبینی کے پاس بھی جاری بحران سے بچنے کا کوئی حقیقی حل نہیں ہے۔ سوائے اس احتیاطی تدبیر کے، کہ مرکزی

بینک خود کو نگرانی کے نیچے لگوائیں تاکہ جاں بحق ہونے سے بچا جاسکے۔ لیکن وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ محض احتیاطی نیکوں سے کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ نہ تو کاروبار اور نہ ہی حکومتیں کسی قسم کا تعاون کر رہی ہیں۔ یورپ اور امریکہ کی حکومتیں کنٹریوں کے پروگراموں پر اس لئے عمل کر رہی ہیں کہ وہ اپنی قرضوں میں جلدی معیشتوں کو قابو میں لاسکیں۔ اس ضمن میں وہ مزید مانیٹری اقدامات متعارف کرائیں گے۔ روینی نے آخر میں جن الفاظ پر بات ختم کی ان سے بہت قنوطیت جھلک رہی تھی کہ ”کارل مارکس نے اس بات کو درست سمجھا تھا کہ ایک مقام پر پہنچ کر سرمایہ دارانہ نظام خود کو تباہ و برباد کرے گا، یعنی ہم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ منڈیاں کام کر دکھائیں گی لیکن وہ کام ہی نہیں کر رہی ہیں۔“

ایک سو تیس سال پہلے مرجانے اور زمین میں دفن ہو جانے والے کارل مارکس کا بھوت آج بھی بورژوازی کے سروں میں منڈلا رہا ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ مارکسزم دراصل ہے کیا؟ مارکسزم کے سبھی پہلوؤں کو ایک مضمون میں سمیٹنا تو ناممکن کام ہے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہاں ایک عمومی اور مخصوص احاطے میں نفس مضمون پیش کریں گے کہ جس کی بدولت ہمارے پڑھنے والوں میں ایسا ذوق و شوق پیدا ہو جائے کہ وہ خود مارکس کی تحریریں پڑھنے کی طرف راغب ہو سکیں۔ مارکس کے نظریات بارے خود مارکس سے زیادہ کون بہتر بات کر سکتا ہے!

اگر عام لفظوں میں بیان کیا جائے تو مارکس کے نظریات کو تین شعبوں یا حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے لیکن جو تقسیم ہو کر بھی باہم مربوط رہتے ہیں۔ لیکن انہیں مارکسزم کے تین ذرائع اجزائے ترکیبی قرار دیتا ہے، انہیں عام طور پر مارکسی معیشت، جدلیاتی مادیت اور تاریخی مادیت کے عنوانات دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک جدلیاتی طور پر باہم منسلک ہے اور کسی ایک کو بھی باقیوں سے الگ یا کاٹ کر نہیں سمجھا جاسکتا ہے۔ مارکسی نظریات کی مبادیات کو سمجھنے کیلئے ہم تجویز دیں گے کہ ہماری تحریک کی اولین بنیادی دستاویز جو کہ 1848ء کے یورپی انقلابات کے موقع پر لکھی گئی تھی، اسے پڑھا جائے۔ یہ تاریخ کی عظیم ترین اور انتہائی موثر کتابوں میں سے ایک ہے۔

## کیونٹ مینی فیسٹو

ڈیڑھ سو سال پہلے شائع ہونے والی کتابوں کی بھاری اکثریت میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جو تاریخی اہمیت کی حامل ہو۔ لیکن کیونٹ مینی فیسٹو کے حوالے سے سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے ہمیں اس ساری کیفیت کی سمجھ بوجھ واضح ہو جاتی ہے کہ جو اس وقت ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لئے ہوئے ہے۔ یہ سوچ کر بھی انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ 1847ء میں لکھی جانے والی ایک کتاب کس طرح اکیسویں صدی کی تصویر کشی کر رہی ہے۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال بنتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 1948ء میں چھپ کر سامنے آنے والا کیونٹ مینی فیسٹو اپنے وقت کی نسبت آج زیادہ سچا ہے۔ یہاں ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ جب مارکس اور اینگلز اسے لکھ رہے تھے تب ان بڑی بڑی عالمی اجارہ داریوں کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایسی کیفیت میں انہوں نے وضاحت سے لکھا کہ کس طرح سے آزاد ادارے اور ان کی مقابلہ بازی ناگزیر طور پر سرمائے کے ارتکاز کو جنم دے گی اور ذرائع پیداوار اجارہ داریت کی زد میں آتے چلے جائیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ جب منڈی کا دفاع کرنے والے اس معاملے میں مارکس پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اسے غلط قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت ہنسی آتی ہے کیونکہ یہ مارکس کی سب سے شاندار اور درست پیش گوئی تھی۔

1980ء کی دہائی میں یہ ایک فیشن بن چکا تھا کہ ”چھوٹا خوبصورت ہوتا ہے“ (small is beautiful)۔ یہاں یہ مقام نہیں کہ ہم چھوٹی، درمیانی یا بڑی درجے کی حامل کسی جمالیاتی بحث میں الجھیں۔ یہ ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اس بارے کوئی بھی رائے رکھے۔ اس بحث میں پڑے بغیر یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ دولت کے ارتکاز کے جس عمل کی پیش بینی مارکس نے کی تھی، وہ آج سب کے سامنے ہو رہا ہے، ہو ہی نہیں رہا بلکہ یہ پچھلے دس سالوں کے دوران بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ امریکہ کے اندر تو یہ عمل بالکل واضح صورت میں دیکھا جاسکتا ہے جہاں 2010ء میں خوش قسمت 500 کارپوریٹیشنوں (Fortune 500) نے مجموعی قومی آمدنی کا 73.5 فیصد اپنے نام کر لیا۔ اگر یہ 500 کمپنیاں باہم مل کر ایک الگ آزاد ملک بنائیں تو یہ دنیا

کی دوسری بڑی معیشت ہوگی۔ 2011ء میں ان 500 کمپنیوں نے 824 ارب ڈالر کاروبار کا ریکارڈ منافع کمایا جو کہ 2010ء کے منافعوں سے 16 فیصد زیادہ تھا۔ عالمی پیمانے پر 2000 بڑی کمپنیاں اس وقت 32 ٹریلین ڈالر نقد، 2.4 ٹریلین ڈالر منافعوں، 138 ٹریلین ڈالر کے اثاثوں اور 38 ٹریلین ڈالر کی مارکیٹ ویلیو کی مالک ہیں۔ جبکہ 2010ء اور 2011ء کے دوران ان کے منافعوں میں 67 فیصد کا ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔

جب مارکس اور اینگلس کمیونسٹ مینی فیسٹو لکھ رہے تھے تو اس وقت ان کے سامنے اس قسم کی واقعاتی شہادتیں موجود نہیں تھیں۔ اس کے برعکس، تب کا سرمایہ دارانہ نظام چھوٹے کاروباروں، آزادانہ تجارت اور مقابلے بازی پر مبنی ہوا کرتا تھا۔ جبکہ آج ساری سرمایہ دار دنیا ایکزون، والمارٹ جیسی مٹھی بھر عالمی اجارہ داریوں کے تسلط میں ہے۔ ان بڑی بڑی کمپنیوں کے پاس جو دولت ہے وہ کئی ملکوں کے قومی بجٹوں سے کہیں زیادہ ہے۔ مینی فیسٹو کی پیش گوئیاں آج جتنی واضح اور شفاف ہیں اتنی تو شاید خود مارکس کی توقع نہ ہوگی۔ سرمائے کا دفاع کرنے والے کسی طور مارکس کو معاف نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت کہ جب سرمایہ دارانہ نظام اپنے شباب کی ابتدا پر تھا، مارکس نے اس کے زوال پذیر ہونے کی وجوہات کو بھانپ لیا تھا اور بیان بھی کر دیا تھا۔ دہائیوں تک تو سرمائے کے محافظین سرمائے کے ارتکاز اور چھوٹے کاروباروں کی جگہ بڑے کاروباروں کے لے لینے کے حوالے سے مارکس کی پیش گوئیوں کو سختی سے مسترد کرتے رہے۔ سرمایہ جس حد تک مرکزیت اور ارتکاز کر چکا ہے، اس کا پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ سبھی جدید صنعتی ممالک میں بڑی کمپنیوں کا چھوٹی کمپنیوں کو کھانا ایک وبا کی صورت اختیار کئے ہوئے ہے۔ کئی معاملات میں تو اس قسم کے تسلط کیلئے بہبودہ اور گھٹیا طور طریقے بھی استعمال کئے گئے ہیں، جن میں اندرونی ساز باز، حصص کی قیمتوں بارے غلط بیانی سمیت کئی دوسری دھوکہ بازیاں اور چور بازاریاں شامل ہیں۔ اسی طرح Libor شرح سود کے حوالے سے برکلیز بینک سمیت کئی بڑے بینکوں کی جانب سے ہیر پھیر کے کئی سکینڈلز سامنے آئے ہیں۔ سرمائے کا یہ ارتکاز کسی طور پیداوار کی ترقی کو ظاہر نہیں کرتا۔ بلکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ کسی بھی جگہ کہیں بھی یہ ارادہ اور نیت نہیں ہے کہ نئی صنعت میں اور مشینوں پر سرمایہ کاری کی جائے۔ اس

کے برعکس کئی کارخانے اور دفاتر بند کئے گئے اور کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بڑی تعداد میں محنت کشوں کو روزگار سے فارغ کیا جا رہا ہے تاکہ پیداوار بڑھائے بغیر اپنی شرح منافع کو بڑھایا جاسکے۔ ابھی حال ہی میں دو سو کس بیٹیکوں نے ادغام کیا ہے جس کے فوری بعد ہی 13000 ملازمین کو کام سے باہر نکال دیا گیا۔

### عالمگیریت اور نابرابری

اب آئیے ہم مارکس کی اگلی اہم پیش گوئی کی طرف بڑھتے ہیں جو اس نے 1847ء میں کی تھی۔ مارکس نے وضاحت کی تھی:

”ایک عالمگیر منڈی کا ارتقا ہر قسم کی قومی انفرادیت اور حدود کو ناممکن بنا کے رکھ دیتا ہے، ہر ملک خواہ وہ کتنا بڑا اور کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اب مکمل طور پر عالمی معیشت کی کلیت کے تابع فرمان ہو چکا ہے اور یہ عالمی معیشت ہی ہے جو ملکوں اور انسانوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرتی ہے۔“

یہ شاندار نظریاتی بصیرت خود ہی اپنا اظہار جس طرح کر رہی ہے، اس کیلئے کسی اور وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اسی سے ہی مارکسی طریقہ کار کی ناقابل تردید برتری ثابت ہوتی ہے۔ گلوبلائزیشن (عالمگیریت) کو عمومی طور پر ایک حالیہ مظہر سمجھا اور قرار دیا جاتا ہے۔ تاہم سرمایہ دارانہ نظام کے تحت ایک واحد عالمی منڈی کی تخلیق کی پیش گوئی سالوں پہلے کمیونسٹ مینی فیسٹو میں کردی گئی تھی۔ اس عالمی منڈی کا دنیا بھر پر بے رحمانہ غلبہ ہمارے آج کے عہد کی سب سے بڑی اور فیصلہ کن حقیقت ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد محنت کی تقسیم کی عالمی پیمانے پر ہونے والی شدت نے مارکس کے تجزیے کی صداقت کو لیبارٹری کے تجربے کی سی سند عطا کر دی ہے۔ اس کے باوجود کہ مارکس کو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ غلط قرار دینے اور مسترد کرنے کی بھرپور اور مسلسل کوششیں کی گئیں۔ اس بات کو جھٹلایا گیا کہ سرمائے کا ارتکاز ہوگا جس کے نتیجے میں طبقات میں تفریق اور امتیاز بڑھتا چلا جائے گا۔ اس قسم کی ذہنی قلابازیاں دراصل بورژوازی کی خواب ہو چکی آرزوں کی نمائندگی کرتی ہیں کہ شاید کمپنیوں کے آزادانہ کاروبار کے سنہرے دن دوبارہ لوٹ

آئیں۔ ایسے ہی جیسے ایک نحیف بوڑھا آدمی اپنی گمشدہ جوانی کے دنوں کی یادوں میں غلطاں رہتا ہے۔ بد قسمتی سے سرمایہ دارانہ نظام کیلئے رتی برابر امکان بھی موجود نہیں کہ اس کے عین شباب کے دن واپس لوٹ آئیں۔ بہت عرصے سے یہ نظام اپنی عمر عزیز کے آخری دن پورے کر چکا ہے، یعنی اجارہ دارانہ سرمایہ داری کے۔ بورژوازی کے تمام تر اویلے کے باوجود چھوٹے کاروباروں کے دن قصہء پارینہ ہو چکے ہیں۔ سبھی ملکوں کے اندر بڑی اجارہ داریوں نے بینکوں کے ساتھ گھ جوڑ کرتے ہوئے بورژوازی کی ریاست کے ساتھ پنگالے کر سارے سماج کی زندگی پر تسلط قائم کر لیا ہے۔ طبقات کے مابین تفریق اور تقسیم کسی رکاوٹ اور وقفے کے بغیر جاری و ساری ہے اور اس کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔

آئیے ہم امریکہ کا جائزہ لیتے ہیں جہاں کے چار سو امیر ترین خاندانوں کی مجموعی دولت سارے امریکہ کی 50 فیصد عام آبادی کی مجموعی دولت کے مساوی ہے۔ وال مارٹ کے 6 مالکان کی مجموعی دولت، 30 فیصد عام امریکیوں کی مجموعی آمدنی کے مساوی ہے۔ غریب ترین امریکیوں کا اپنے ملک کی دولت میں حصہ محض 2.5 فیصد ہے۔ امریکی آبادی کے امیر ترین ایک فیصد کا ملک کی مجموعی آمدنی میں حصہ جو 1976ء میں 17.6 فیصد تھا، وہ 2011ء میں بڑھ کر 37.1 فیصد ہو چکا ہے۔ پچھلے تیس سالوں کے دوران امیروں کی امارت اور غریبوں کی غربت کے مابین خلیج ناقابل تصور حد کو پہنچی ہے۔ صنعتی ترقی یافتہ مغرب میں امیر ترین دس فیصد کی آمدنی وہاں کے غریب ترین دس فیصد کے مقابلے میں نوگنا زیادہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق، بہت بڑی خلیج ہے۔ معاشی طور پر آسودہ ملکوں کی تنظیم OECD کے جاری کردہ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ میں سے شروع ہونے والی بے چینی اور مایوسی کی لہریں اب سویڈن، جرمنی اور ڈنمارک میں بھی پھیلتی جا رہی ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جو روایتی طور پر کم نابرابری کے حامل چلے آ رہے تھے۔ بینکاروں کی مکروہ دولت اب ایک پبلک سکیئنڈل بن چکی ہے۔ لیکن یہ مظہر صرف مالیاتی اداروں تک ہی محدود نہیں ہے۔ بہت سی کمپنیوں کے ڈائریکٹروں کی اجرتیں، ان کمپنیوں کے کم ترین اجرت لینے والے محنت کشوں کے مقابلے میں 200 گنا زیادہ ہیں۔ اس بے حد بے حساب



تفریق نے مزاحمت کو مشتعل کرنے میں اہم کردار کیا ہے اور اندیشہ ہے کہ کسی بھی وقت یہ اشتعال پھٹ کر ایک کے بعد دوسرے ملک کی سڑکوں پر آ کر اپنا اظہار کر سکتا ہے۔ بڑھتا ہوا یہ دباؤ اور تناؤ اپنا اظہار ہڑتالوں، مظاہروں، عام ہڑتالوں اور فسادات کی شکل میں کرتا چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح یہ اپنا اظہار حکومتوں اور مرجہ سیاسی پارٹیوں کے خلاف ووٹوں کی صورت میں بھی کر رہا ہے۔ اس کا ایک واضح مظاہرہ اٹلی میں ہونے والے حالیہ عام الیکشن میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جریدے ”نائٹم“ کے ایک سروے کے مطابق 54 فیصد امریکی ”آکوپائی وال سٹریٹ موومنٹ“ کی حمایت کرتے ہیں۔ 79 فیصد امریکی یہ مانتے ہیں کہ امیر اور غریب کے مابین تفاوت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ 71 فیصد امریکیوں کی رائے ہے کہ کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹوز کے خلاف مقدمات قائم ہونے چاہئیں۔ 68 فیصد امریکی چاہتے ہیں کہ امیروں پر زیادہ ٹیکس لگائے جائیں۔ رائے عامہ میں 27 فیصد نے ”ٹی پارٹی“ کی حمایت کی جبکہ 33 فیصد نے اسے مسترد کر دیا۔ بلاشبہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ امریکہ میں انقلاب تیار ہے، یہ بہت قبل از وقت بات ہوگی لیکن یہ بات واضح ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کا بحران، آبادی کی ایک بڑی اکثریت میں تنقید اور غم و غصے کے رجحان کو فروغ دے رہا ہے۔ یہاں ایک ماحول بن چکا ہے جس کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں ایسے سوالات جنم لے رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی سامنے نہیں آئے تھے۔

## پیرو زگاری کا طاعون

کیونٹ مینی فیسٹو میں کہا گیا تھا:

”یہاں یہ بات واضح طور پر مصدقہ ہو جاتی ہے کہ بورژوازی اب کسی طور بھی سماج کو چلانے کیلئے نا اہل ہو چکی ہے اور اب یہ سماج کے اوپر اپنے براجمان رہنے کے برتر قانون کے ہر جواز سے محروم ہو چکی ہے۔ یہ حکمرانی کے قابل نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے غلام کو اس کی غلامی کی حالت میں بھی زندہ رہنے کی یقین دہانی کرانے کے بھی قابل نہیں رہی۔ یہ اس قابل بھی نہیں رہی کہ یہ

اپنے غلام کو اتنا بھی کھلا سکے کہ وہ ڈوبنے سے بچ سکے، چہ جائیکہ اس کا غلام اسے کھلاتا پلاتا رہے۔ انسانی سماج اس بورژوازی کے تحت زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔“

مارکس اور اینگلس کے مذکورہ بالا الفاظ آج حقیقت کا روپ دھار چکے ہیں۔ سماج کی سبھی پرتوں کے اندر اب یہ احساس جاگزیں ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم سب کی زندگیاں ایسی طاقت کے غلبے تلے دب چکی ہیں جو ہم سب کے کنٹرول سے باہر ہے۔ انسانی سماج ایک دہلا دینے والی بے یقینی اور خوف کی گرفت میں آچکا ہے۔ سارے سماج میں عملی طور پر عدم تحفظ کا احساس ایک معمول بن چکا ہے۔ وسیع پیمانے کی بیروزگاری جس کا ہم روز مشاہدہ اور تجربہ کر رہے ہیں، مارکس کی پیش بینی سے بھی کہیں زیادہ بدتر سطح کو چھو رہی ہے۔ مارکس نے بیروزگاروں کی ریزرو فوج کا تذکرہ کیا تھا جس سے اس کی مراد یہ تھی کہ محنت کشوں کے ایک حصے کو بیروزگار رکھا جاتا ہے جس کی بدولت سرمایہ داروں کو اپنے کام کرنے والوں کی اجرتوں کو کم رکھنے میں سہولت مل رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں آج ہم جس قسم کی اور جس سطح کی بیروزگاری دیکھ رہے ہیں، وہ مارکس کی بیان کردہ ریزرو فوج نہیں ہے جو کہ سرمایہ دارانہ نکتہ نظر سے فائدہ مند کردار ادا کرتی ہے۔

امیر جس قدر امیر تر ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی محنت کرنے والوں کا خون نچوڑا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ سرمایہ داری کے عمومی بحران کی پیدا کردہ بیروزگاری نہیں کہ جس کے محنت کش عام طور پر ماضی سے عادی اور واقف بھی چلے آ رہے ہیں۔ ایسی عمومی بیروزگاری ایک بحران میں ابھرتی ہے اور بحران کے ختم ہونے کے بعد غائب ہو جاتی ہے۔ موجودہ بیروزگاری ایک سٹرکچرل، مستقل اور نامیاتی بیروزگاری ہے جو کہ کسی عروج کے سامنے آجانے پر بھی قطعی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ایک بھاری پتھر بن جاتی ہے جو کہ پیداواری عمل کو مست کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی علامت ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ نظام ایک اندھے رستے پر گامزن ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق 2008ء کے بحران سے دس سال پہلے دنیا میں بیروزگاروں کی تعداد 120 ملین تھی جبکہ 2009ء میں عالمی ادارہ برائے محنت کے مطابق یہ تعداد 198 ملین تک پہنچ چکی تھی جبکہ توقع ظاہر کی گئی کہ 2013ء تک یہ 202 ملین تک پہنچ جائے گی۔ تاہم بیروزگاری بارے دیگر

اعداد و شمار کی طرح یہ اعداد و شمار بھی حقیقی صورتحال سے گریز کی ایک سنجیدہ کوشش ہیں۔ اگر ہم اس فہرست میں ان خواتین و حضرات کو بھی شامل کریں جو چھوٹے موٹے روزگار کرنے پر مجبور ہیں تو دنیا بھر میں بیروزگاری یا نیم روزگار کا شکار انسانوں کی تعداد کسی طور بھی 1000 بلین سے کم نہیں ہوگی۔ معاشی بحالی کے تمام تر دعوؤں کے باوجود معاشی ترقی کے سابقہ پاور ہاؤس جرمی میں معاشی ترقی کی شرح تقریباً صفر تک آگئی ہے۔ یہی حال فرانس کا ہے جبکہ جاپان کی معیشت بھی ٹھہراؤ کا شکار چلی آ رہی ہے۔ لاکھوں کروڑوں خاندانوں کی محرومی اور بے بسی جہاں ایک بہت بڑا مسئلہ اور المیہ ہے وہیں معاشی نکتہ نظر سے یہ کیفیت انتہائی وسیع پیمانے پر ایک بہت بڑے پیداواری نقصان اور ضیاع کا بھی اظہار ہے۔ لیبر لیڈروں کی ماضی کی توقعات کے برعکس، وسیع پیمانے پر بیروزگاری واپس آ چکی ہے اور یہ ساری دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے اور ایک قاتل کینسر کی طرح سماج میں سرایت کرتی جا رہی ہے۔ سرمایہ داری کا بحران براہ راست نوجوانوں کو اپنے خونی جڑوں میں جکڑے جا رہا ہے۔ ہر ملک میں نوجوانوں میں بیروزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ برطانیہ میں طالب علموں کے احتجاج اور نوجوانوں کی سرکشی، سپین میں انڈیگناؤس تحریک، یونان میں سکولوں پر قبضوں، یہاں تک کہ تیونس اور مصر کی انقلابی تحریکوں کے پیچھے بھی یہی بیروزگاری نمایاں عنصر تھی جہاں تقریباً 75 فیصد نوجوان بیروزگاری کا شکار ہیں۔ یورپ میں بھی بیروزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت سپین کے اعداد و شمار کے مطابق 27 فیصد بیروزگاری ہے۔ جبکہ نوجوانوں میں یہ شرح خطرناک حد تک 55 فیصد ہے۔ یونان میں نوجوانوں میں بیروزگاری کی شرح 62 فیصد سے کسی طور کم نہیں ہے۔ ہر تین میں سے دو نوجوان بیروزگار ہیں۔ نوجوانوں کی ایک پوری نسل کو منافع کی کالی دیوی کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ وہ جو یہ سمجھتے تھے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اچھا مستقبل بنالیں گے، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ راستہ بھی روکا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں جہاں اعلیٰ تعلیم مفت ہوا کرتی تھی، وہاں اب نوجوانوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اعلیٰ ہنر سیکھنے کیلئے اب انہیں قرضے لے کر پڑھنا ہوگا۔

دوسری طرف وہ محنت کش جو ریٹائرمنٹ کو پہنچنے والے ہیں ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہیں آگے بھی کام کرنا پڑے گا، یوں انہیں اپنی پنشنوں کیلئے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑے گی جس سے وہ بڑھاپے کا وقت غربت اور تنگی میں گزارنے پر مجبور کر دیے جائیں گے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نئی اور پرانی نسل کو درپیش اذیتوں کے ساتھ عام لوگوں کی بھاری اکثریت کو آج زندگی بھر کیلئے عدم تحفظ کے احساس تلے دب کر جینے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ قدیم بورژوازی کی خاندان اور اخلاقیات بارے اقدار کی منافقت ہر طرف اور ہر ایک پر عیاں ہو چکی ہے۔ بیروزگاری کا طاعون، بے گھری، اعصاب شکن قرضے اور انتہاؤں کو پہنچی ہوئی سماجی نابرابری نے ایک پوری نسل کو ایک ایسی اتھاہ بیزاری میں دھکیل دیا ہے کہ خاندان کا تصور ہی مجروح ہو کے رہ گیا ہے۔ اس صورتحال نے ایک ایسی مہیب سماجیات پیدا کر دی ہے کہ جو ایک منظم غربت، بے یقینی، خود اذیتی اور مایوسی کے عفریت کی شکل اختیار کر چکی ہے۔

### زائد پیداوار کا بحران

قدیم یونانی دیومالائی کہانیوں میں ہمیں ایک کردار ”پروکرسٹس“ کے نام سے ملتا ہے، جس کی ایک عجیب و غریب عادت تھی کہ وہ اپنے گھر آنے والے مہمانوں کے بازو، سر اور ٹانگیں کاٹ لیا کرتا تھا جن کے وجود اس کے مخصوص بستر سے بڑھے ہوتے تھے۔ آج کل سرمایہ دارانہ نظام بھی ”پروکرسٹس“ کا بستر بنا ہوا ہے۔ بورژوازی، ذرائع پیداوار کو منظم طریقے سے تباہ و برباد کر رہی ہے تاکہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کی تنگ حدود میں فٹ رہیں اور تجاوز نہ کریں۔ یہ معاشی غنڈہ گردی، وسیع پیمانے کی ”کاٹ ڈالو اور جلا ڈالو“ جیسی بد معاشی سے مماثلت رکھتی ہے۔ جارج سوروس اس کیفیت کو ایک ایسی گیند قرار دیتا ہے کہ جسے بلند و بالا عمارتوں کو گرانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں صرف عمارتیں ہی نہیں ڈھائی جارہی ہیں، یہاں تو پوری کی پوری معیشتیں اور ریاستوں کی ریاستیں برباد کی جارہی ہیں۔

آج کا مقبول ترین نعرہ ”کٹوتیاں“ اور ”معیار زندگی میں گراؤٹ“ ہے۔ ہر ایک ملک میں بورژوازی نے ایک ہی جنگی طبل بجایا ہوا ہے کہ ”ہمیں لازماً سرکاری اخراجات میں کٹوتیاں کرنی

چاہئیں۔“ سرمایہ دار دنیا کے ہر ملک میں، چاہے وہاں دائیں بازو کی حکومت ہے یا پھر ”بائیں بازو“ کی، حقیقت میں سبھی اسی ایک پالیسی کو ہی اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ کسی بھی ایک یا دو مخصوص سیاستدانوں کی خواہش یا نااہلی کا نتیجہ نہیں ہے نہ ہی کسی کی غفلت یا بد عنوانی اس کے پیچھے کارفرما ہے (بلاشبہ کئی بلکہ بہت سے اس قسم کے ناہنجار بھی موجود ہیں) بلکہ یہ سارا انتشار اور خلفشار دراصل اس اندھے پن کا براہِ راست اور مجموعی اظہار ہے جس کا سرمایہ دارانہ نظام شکار ہو چکا ہے۔ یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اپنی حدود کو پہنچ رہا ہے اور یہ ماضی کی طرح پیداواری قوتوں کو ترقی دینے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ گونٹے کے الفاظ میں اس نے ایسی قوتیں تخلیق کر دی ہیں جو کہ اب خود اس کے کنٹرول سے بھی باہر ہو چکی ہیں۔ لیکن ریاستی اخراجات کم کرنے سے یہ مسلسل طلب میں کمی بھی پیدا کر رہے ہیں اور یوں منڈی کو ہی کاٹتے چلے جا رہے ہیں اور یہ سب ایک ایسے وقت ایک ایسی کیفیت میں ہو رہا ہے کہ جب بورژوا معاشی ماہرین یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ انہیں اس وقت عالمی سطح پر زائد پیداوار (زائد صلاحیت) کا سنجیدہ بحران درپیش ہے۔ آئیے یہاں ہم ایک شعبے آٹوموبائل کا ہی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی شعبہ ہے کیونکہ اس سے مزید کئی شعبے وابستہ اور منسلک ہیں۔ جن میں سنٹیل، پلاسٹک، کیمیکلز اور الیکٹرونکس شامل ہیں۔ اس شعبے کی عالمگیر رسائی کی صلاحیت لگ بھگ 30 فیصد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ فورڈ، جنرل موٹرز، فی ایٹ، ریٹلٹ، ٹویوٹا اور دوسرے ادارے ایک ہی دن کے نوٹس پر اپنے ایک تہائی کارخانے بند اور ایک تہائی ورک فورس کو فارغ کر سکتے ہیں لیکن ایسا کرنے کے باوجود بھی یہ سب ادارے مطلوبہ شرح منافع پر اپنی پیدا کردہ گاڑیوں کو نہیں بیچ سکیں گے۔ ایسی ہی کیفیت دوسرے شعبوں کی بھی ہے۔ جب تک اس بڑھی ہوئی صلاحیت کے مسئلے کا حل تلاش نہیں کر لیا جاتا، موجودہ بحران کسی طور ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ سرمایہ داروں کو درپیش پریشانی کو آسانی سے بیان کیا جاسکتا ہے۔ اگر یورپ اور امریکہ خریداری نہیں کریں گے تو چین پیداوار جاری نہیں رکھ سکے گا اور اگر چین اپنی پہلی والی پیداواریت کو برقرار نہیں رکھتا تو برازیل، ارجنٹائن اور آسٹریلیا جیسے ممالک اپنے خام مال کی برآمدات جاری

نہیں رکھ سکیں گے۔ ساری دنیا آپس میں اتنی جڑی ہوئی ہے کہ کسی کو کسی سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ یورو کا بحران امریکی معیشت پر اثرات مرتب کرے گا جو کہ خود ایک کمزور حالت میں ہے اور اگر امریکہ متاثر ہوتا ہے تو یہ ساری عالمی معیشت کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ”گلوبلائزیشن“ اب سرمایہ دارانہ نظام کے عالمگیر بحران کی صورت اختیار کر چکی ہے۔

## بیگانگی

ایک انتہائی حیران کن بصیرت کے ساتھ کیونٹ مینی فیسٹو کے مصنفین ان حالات کی نشاندہی کرتے نظر آتے ہیں جن کا آج دنیا کے ہر ایک ملک کے محنت کشوں کو سامنا ہے:

”مشینری کے بڑھتے ہوئے استعمال اور محنت کی تقسیم کاری وجہ سے پروتاریہ کا کام اپنے انفرادی کردار سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جس کا نتیجہ کام کے ساتھ، کام کرنے والے کی رغبت کے خاتمے کی صورت میں نکلتا ہے۔ وہ مشین ہی کا ایک پرزہ بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ ایک سب سے سادہ، سب سے بیزار کن اور انتہائی آسانی سے میسر آ جانے والا رویہ ہوتا ہے جو اسے مل جاتا ہے۔ تاہم کام کرنے والے کی لاگت محدود ہوتی ہے، اور یہ صرف اتنی ہی ہوتی ہے کہ جس کے بل بوتے پر وہ بطور مزدور زندہ رہ سکے اور اپنی نسل کو برقرار رکھ سکے۔ لیکن ایک تیار شدہ جنس اور محنت کی قیمت، پیداوار کی لاگت کے مساوی ہوتی ہے۔ توازن کے اعتبار سے، کام کی شدت کے دباؤ میں جتنا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اتنی ہی اجرت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ایسے ہی توازن میں مشینری اور محنت کی تقسیم میں اضافہ ہونے سے، اسی تناسب سے کام کرنے والے کے دباؤ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، چاہے یہ اوقات کار میں اضافے کی صورت میں ہو، ایک دیے گئے وقت میں زیادہ کام کرنے کی شکل میں ہو یا پھر مشینری کی رفتار بڑھانے جیسی دوسری شکلوں میں ہو۔“

آج امریکہ جیسے سب سے ترقی یافتہ سرمایہ دار ملک کی بالکل ویسی ہی کیفیت ہے جیسی مارکس کے دور میں برطانیہ کی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ہم امریکہ میں سرمایہ دارانہ نظام کے سبھی عمومی

خدوخال، صاف شفاف حالت میں دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلے تیس سالوں کے دوران امریکہ میں کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹوز کی تنخواہوں میں 725 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ جبکہ اسی عرصے میں محنت کشوں کی اجرتوں میں صرف 5.7 فیصد اضافہ ہوا۔ یہ چیف ایگزیکٹوز اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے مقابلے میں 244 گنا زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں۔ وفاق کی سطح پر اس وقت کم از کم اجرت 7.25 ڈالرز فی گھنٹہ ہے۔ اکنامک پالیسی ریسرچ کے مرکز کے مطابق اگر کم از کم اجرت کو، محنت کش کی پیداوار سے منسلک رکھا جاتا تو یہ 2012ء میں بڑھ کر 21.72 ڈالرز فی گھنٹہ تک بڑھ چکی ہوتی۔ اگر افراط زر کو سامنے رکھا جائے تو اوسطاً ایک مرد محنت کش امریکی کی اجرت حقیقت میں 1968ء میں ملنے والی اجرت سے بھی کم ہے۔ اس اعتبار سے 2008ء سے پہلے کا سارا عروج (Boom) دراصل محنت کشوں کی قیمت پر ہی کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔

اس وقت جبکہ لاکھوں انسانوں کو جبری طور پر ایک ایسی زندگی میں دھکیل دیا گیا ہے جہاں وہ کچھ نہ کر سکنے کے جبر مسلسل کی زد میں آ چکے ہیں، وہیں لاکھوں انسانوں کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ دو دو، یہاں تک کہ تین ملازمتیں کر کے زندہ رہنے کی تک دو دو میں لگے رہیں۔ لوگ اکثر ہفتہ وار ساٹھ گھنٹے اور کہیں اس سے بھی زیادہ، کام کر رہے ہیں اور اس ادور ٹائم کا انہیں کوئی اجرتی فائدہ بھی نہیں دیا جاتا۔ 85.8 فیصد مرد جبکہ 66.5 فیصد خواتین چالیس گھنٹے فی ہفتہ سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ عالمی ادارہ برائے محنت کے مطابق ”امریکی محنت کش، جاپانی محنت کشوں کے مقابلے میں 137 گھنٹے، برطانوی محنت کشوں کے مقابلے میں 269 گھنٹے اور فرانسیسی محنت کشوں کے مقابلے میں 499 گھنٹے سالانہ زیادہ کام کرتے ہیں۔“

امریکی بیورو برائے لیبر اقتصادیات کے اعداد و شمار کے مطابق:

”1950ء کے بعد سے امریکی محنت کش کی اوسط پیداواریت میں 400 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ نظریاتی اعتبار سے بات یوں بنتی ہے کہ ویسا ہی معیار زندگی حاصل کرنے کیلئے ایک محنت کش کو 1950ء کے مقابلے میں ایک چوتھائی کام کرنا چاہیے یعنی 11 گھنٹے فی ہفتہ یا پھر معیار زندگی بھی چار گنا بڑھنا چاہیے۔ اس کے برعکس ہوا یہ ہے کہ اکثریتی محنت کشوں کا معیار زندگی ڈرامائی

طور پر گر چکا ہے۔ جبکہ کام سے وابستہ ذہنی تناؤ، کام کے دوران زخمی ہوجانے یا بیمار ہوجانے کی شرح میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ڈپریشن، خودکشیوں، طلاوتوں، گھریلو تشدد، قتل عام سمیت کئی دوسری سماجی بیماریاں ایک وبا کی طرح پھیل رہی ہیں۔ ایسی ہی صورتحال برطانیہ کے اندر بھی موجود ہے جہاں تھپچر کے دورِ حکومت میں 2.5 ملین صنعتی روزگار ختم کر دئے گئے۔ اس کے باوجود بھی یہاں 1979ء کی سطح کی شرح پیداوار قائم ہے۔ یہ ہدف نئی مشینری لگانے سے نہیں بلکہ محنت کشوں کے بڑھے ہوئے استحصال کی بدولت ممکن کیا گیا ہے۔ 1995ء میں برطانوی ڈائریکٹر جنرل آف ہیلتھ کینیٹھ کیلمین نے انبتاہ کیا تھا کہ مستقل روزگار کے ختم ہوجانے کے بعد ذہنی تناؤ سے جڑی بیماریاں وبا کی طرح تیزی سے پھیل رہی ہیں۔“

### طبقاتی جدوجہد

مارکس اور اینگلز نے کمیونسٹ مینی فیسٹو میں قرار دیا تھا کہ معلوم انسانی تاریخ میں ایک مسلسل اور متواتر عنصر یہ چلا آ رہا ہے کہ سماجی ترقی، طبقاتی جدوجہد ہی کی مرہونِ منت ہوا کرتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت اس کا عظیم اور سادہ اظہار، سماج کے دو بڑے متضاد طبقوں کی واضح تقسیم سے ہوتا ہے۔ پچھلے دو سو سالوں کی صنعت اور ٹیکنالوجی کی شاندار ترقی کی بدولت، معاشی طاقت قلیل ہاتھوں میں مرکوز و مرتکز ہوتی چلی گئی ہے۔ کمیونسٹ مینی فیسٹو کے مقبول ترین فقروں میں سے ایک یہ ہے کہ ”اب تک کی انسانی سماج کی ساری تاریخ، طبقاتی کشمکش کی تاریخ ہے۔“ بہت لمبے عرصے تک، بہت سوں کے دماغوں میں یہ سوچ پروان پاتی چلی جا رہی تھی کہ یہ تصور ہی متروک ہو چکا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد کے طویل سرمایہ دارانہ پھیلاؤ کی وجہ سے جدید صنعتی معیشتوں میں روزگار کی کوئی قلت نہ تھی، معیار زندگی اور اصلاحات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، فلاحی ریاستیں بن رہی تھیں، ایسے میں لگ بھی ایسے رہا تھا کہ طبقاتی کشمکش ماضی ہی کی کوئی چیز ہو گی۔ مارکس نے پیش گوئی کی تھی کہ سرمایہ دارانہ نظام کی ترقی لامحالہ سرمائے کے ارتکاز کا باعث بنے گی، ایک طرف دولت کے بے تحاشا اجتماع تو دوسری جانب یہ سماج کے دوسرے حصے میں



غربت، محرومی اور ناقابل برداشت مشقت کے ارتکاز کا بھی وسیلہ بنے گی۔ کئی دہائیوں سے بورژوا معاشی ماہرین اور یونیورسٹیوں کے سماجیاتی ماہرین اس تصور کو ناکارہ قرار دیتے اور یہ اصرار کرتے چلے آ رہے تھے کہ سماج روز بروز اور زیادہ سے زیادہ ایک طبقاتی ہوتا چلا جا رہا ہے اور اب ہر کوئی مڈل کلاس بننا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اب یہ سبھی دعوے نقش بر آب ہو چکے ہیں۔ بورژوا سماجیات دانوں کی یہ دلیل کہ محنت کش طبقہ اب وجود ہی نہیں رکھتا، اب ان کا منہ چڑا رہی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے کے دوران کام کرنے والے لوگوں کی اہم پر تیس جو پہلے خود کو مڈل کلاس تصور کرتی تھیں اب صنعتی مزدوروں کی سطح پر آ چکی ہیں۔ اساتذہ، سرکاری ملازمین، بینکوں کے ملازمین اور کئی دوسرے کام کرنے والے تو اترا سے محنت کش طبقے کی صفوں میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہی میں سے کچھ تو ولولہ انگیز جدوجہد کرنے والے بھی بن رہے ہیں۔ یہ قدیم منطق کہ ہر کوئی ترقی کر سکتا ہے اور یہ کہ ہم سب مڈل کلاس ہیں، واقعات و حالات کے ہاتھوں بیکسر مسترد ہو چکی ہے۔ برطانیہ امریکہ اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں پچھلے بیس تیس سالوں میں معاملات اٹلے چلنے شروع ہو گئے ہیں۔ مڈل کلاس لوگ اس سوچ کے عادی ہو چکے تھے کہ زندگی کا نظم و نسق مختلف مرحلوں میں چلتا ہے اور ہر اگلا مرحلہ، پچھلے سے بہتر ہوتا ہے۔ اب کہیں بھی یہ صورت حال نہیں رہی۔ محفوظ روزگار ایک خواب بن چکا ہے۔ قدیمی چلے آ رہے کاروبار اور پیشے اب غائب ہونا شروع ہو چکے ہیں اور طویل عرصے کی مستقل ملازمتیں اب ماضی کی یادیں بنتی جا رہی ہیں۔ ترقی کے زینے اکھڑ چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کیلئے مڈل کلاس طرز زندگی میں کوئی کشش باقی نہیں رہی۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اب روزانہ کی بنیاد پر زندہ رہنا پڑ رہا ہے اور ان کو مستقبل بارے کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیسا ہوگا؟ اگر لوگوں کے پاس کوئی دولت ہے تو وہ ان کے مکانوں کی شکل میں ہے لیکن معیشت کی تنگ حالی کی کیفیت میں کئی ملکوں میں مکانوں کی قیمتیں گر چکی ہیں اور جو شاید کئی سالوں تک ایسے ہی منجمد ہیں۔ جائیداد کی ملکیت پر مبنی جمہوریت کا تصور ایک سراب بن چکا ہے۔ ایک آرام دہ ریٹائرمنٹ کیلئے مددگار مالی معاونت کا حامل اثاثہ بننے کی بجائے، گھر کی ملکیت ایک بھاری بوجھ بن چکی ہے۔ آپ چاہے روزگار پر ہیں یا نہیں ہیں لیکن آپ کو گھر کیلئے لیا ہوا قرضہ تو بہر حال واپس کرنا ہی کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو تو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اور ان

کے قرضے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ادا ہونا ہی ناممکن ہو گیا ہے۔ ایک ایسی نسل پیدا ہو چکی ہے اور جس میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو قرضوں کی غلامی میں جکڑی جا چکی ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کی ایک تباہ کن سفاکی ہے۔ تاہم بڑے پیمانے پر مراعات یافتہ محنت کشوں کے معیار زندگی میں گراؤٹ انہیں روانتی محنت کش طبقے یعنی صنعتی مزدوروں کی سطح پر لے آئی ہے جس کی وجہ سے رجعت کا سماجی مواد بہت کم رہ گیا ہے۔ ابھی حالیہ عوامی تحریکوں میں سماج کے وہ حصے بھی شامل ہیں جنہوں نے پہلے کبھی سوچا تک نہیں ہوگا کہ وہ ہڑتالیں مظاہرے کریں گے یا یہاں تک کہ کسی یونین کا حصہ بنیں گے، ان میں ٹیچر اور سول سروسٹس بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے حالیہ طبقاتی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا۔

### خیال پرستی اور مادہ پرستی

آئیڈیلزم یا خیال پرستی کا طریقہ کار اس بات سے متعلق ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں اور اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ لیکن مارکس نے وضاحت کی ہے کہ خیالات آسمانوں سے نہیں ٹپکتے بلکہ اس کی بہ نسبت، کم و بیش، درست طور پر معروضی صورتحال، سماجی دباؤ اور ان تضادات کا اظہار ہوتے ہیں جو مردوزن کے اختیار اور بس سے باہر ہوتے ہیں۔ لیکن تاریخ اپنا اظہار ”عظیم“ انسانوں، بادشاہوں، سیاستدانوں یا فلسفیوں کی آزاد فکر یا شعوری خواہشات کے تحت نہیں کرتی بلکہ اس کے برعکس، سماج کی ترقی کا دارومدار اس کے ذرائع پیداوار کی ترقی پر ہوتا ہے۔ سرمایہ داری میں یہ ترقی شعوری منصوبہ بندی کی پیداوار نہیں ہوتی بلکہ مردوزن کی محنت شاقہ کی مرہون منت ہوتی ہے۔

مارکس نے سوشلزم کو ٹھوس نظریاتی بنیادوں پر استوار کیا۔ تاریخ کے سائنسی ادراک کی بنیاد، کسی طور پانی میں تیرنے والے نقوش، مسخ شدہ تصورات اور مردوزن کے ذہنوں میں موجود مافوق الفطرت توہمات پر نہیں بلکہ حقیقی سماجی تعلقات پر قائم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کے ایک مخصوص مرحلے پر طرز پیداوار کی سیاسی اور سماجی عوامل کے ساتھ باہمی تعلقات بارے درست آگہی سے ہی اس کا آغاز کیا جاسکتا ہے۔ اسی کو ہی مختصر آتاریخی مادیت کے تجزیے کا طریق کار کہا

جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو اس نظریے سے تکلیف ہوگی کہ اس سے تو تاریخی عمل میں موجود سربرآوردہ شخصیات کے کردار کی نفی ہوتی ہے۔ اسی انداز میں ہی کلیسا اور اس کے فلسفیانہ معذرت خواہان، گلیلیو کے اس دعوے پر سخت ناراض ہوئے تھے کہ سورج زمین کے گرد نہیں بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ بعد ازاں ایسے ہی لوگ تھے جنہوں نے ڈارون پر حملے شروع کر دیے تھے جب اس نے یہ کہا تھا کہ انسان کسی دیوتا کی خصوصی پیداوار نہیں بلکہ قدرتی انتخاب کی پیداوار ہے۔

تاہم مارکسزم کسی طور بھی تاریخ میں داخلی عنصر اور سماجی ترقی میں انسانوں کی شعوری فعالیت کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا۔ مردوزن اپنی تاریخ خود بنایا کرتے ہیں۔ لیکن ایسا وہ اپنی آزادانہ خواہش اور شعوری ارادے کے تحت نہیں کرتے۔ مارکس کے الفاظ میں:

”تاریخ کچھ نہیں کیا کرتی، اس کے پاس نہ تو بے پناہ دولت ہو کرتی ہے نہ ہی یہ جنگیں کیا کرتی ہے۔ یہ انسان ہی ہوتا ہے، حقیقی انسان، جو یہ سب کچھ کرتا ہے۔ وہی ملکیت رکھتا اور وہی لڑائی کرتا ہے۔ تاریخ کسی طور انسان کو اپنے کسی مقاصد کیلئے استعمال نہیں کیا کرتی۔ تاریخ، انسان کی اپنے مقاصد کے حصول کی تک و دو کی سرگرمی کے سوا کچھ بھی نہیں۔“ (مارکس/اینگلز۔ مقدس خاندان)

مارکسزم جو کچھ کرتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ فرد کے کردار کو اسی طرح بیان کرتا ہے جیسا کہ سماج نے اسے دیا ہوتا ہے اور جو آخر کار ایک مخصوص طبقے کے مفادات کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ خیالات اور تصورات کا کوئی جداگانہ وجود نہیں ہوتا۔ جرمن آئیڈیالوجی میں مارکس لکھتا ہے کہ ”زندگی کا تعین شعور سے نہیں ہوتا بلکہ شعور کا زندگی سے ہوا کرتا ہے۔“ لوگوں کے افکار اور افعال سماجی تعلقات سے مشروط ہوتے ہیں جن کا ارتقا کسی طور مردوزن کی ذاتی خواہشات کے تابع نہیں ہوا کرتا بلکہ جو مطلق قوانین کے تحت بنتے بگڑتے ہیں اور جو آخری تجزیے میں پیداواری قوتوں کی ترقی کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان عوامل کے مابین باہمی تعلق کا تانا بانا ایک ایسے گتھلک انداز میں بنا ہوا ہوتا ہے جسے دیکھ پانا اکثر مشکل ہوتا ہے۔ ان تعلقات کا مطالعہ ہی مارکسزم کے

نظریہ تاریخ کی بنیاد ہے۔ آئیے ہم یہاں ایک مثال دیتے ہیں۔ برطانوی انقلاب کے وقت اولیور کرامویل کو پختہ یقین تھا کہ وہ ہر فرد کے حق کیلئے لڑ رہا ہے تاکہ وہ خداوند سے اپنے ضمیر کے مطابق مانگ سکے۔ لیکن تاریخ کی اپنی پیش رفت نے یہ ثابت کیا کہ کرامویل کا انقلاب، برطانوی بورژوازی کی طاقت میں آنے کیلئے ناقابل مزاحمت پیش قدمی ثابت ہوا۔ سترہویں صدی میں برطانیہ میں پیداواری قوتوں کی ترقی نے کوئی اور نتیجہ پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔

1789-93ء کے عظیم فرانسیسی انقلاب کے قائدین نے ”آزادی، برابری اور اخوت“ کے نعرے کے تحت اپنی لڑائی لڑی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ وہ انصاف اور دلیل کے آفاقی قوانین کیلئے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تاہم اپنے تصورات اور ارادوں کے برعکس جیکوبنز (Jacobins) فرانس میں بورژوازی کی حکمرانی کیلئے فضا ہموار کر رہے تھے۔ سماجی ارتقا کے اس مقام پر اور کوئی حل ممکن نہیں تھا۔

مزدور تحریک کے نکتہ نظر سے مارکس کی عظیم خدمت یہ ہے کہ وہ پہلا فرد تھا کہ جس نے یہ وضاحت کی کہ سوشلزم صرف ایک اچھا نظریہ ہی نہیں بلکہ یہ سماجی ارتقا کا ایک ضروری نتیجہ بھی ہے۔ مارکس سے پہلے کے سوشلسٹ مفکرین اور یوٹوپائی سوشلسٹ حضرات نے ایسے آفاقی قوانین دریافت اور لاگو کرنے کی کوشش کی کہ جن کے باعث انسانی عقل و دانش کو طبعاتی سماج کی نابرابری پر فتح حاصل ہو جائے۔ اس کیلئے ضروری تھا کہ ایسا ایک تصور پیدا کیا جائے جس کے بعد ایسے سبھی مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ ایک خیال پرستانہ نکتہ نظر ہے۔ یوٹوپائی سوشلسٹوں کے برخلاف، مارکس نے کبھی بھی عمومی سماجی قوانین دریافت کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس نے ایک مخصوص سماج یعنی سرمایہ دارانہ سماج کی حرکت کے قانون کا تجزیہ کیا اور وضاحت کی کہ کیسے اس نے جنم لیا، کیسے یہ پردان چڑھا اور کس طرح سے ایک مخصوص مرحلے پر پہنچ کر یہ ختم ہو جائے گا۔ اس بڑے کام کو مارکس نے اپنی کتاب ”سرمایہ“ کی تین جلدوں میں بیان کیا۔

چارلس ڈارون اپنی جہلت میں مادہ پرست تھا جس نے وضاحت کی کہ مختلف انواع کا ارتقا فطری ماحول کے اثرات کے نتیجے میں ہوا ہے۔ کارل مارکس نے وضاحت کی کہ نسل انسانی کا ارتقا ایک ایسے ”مصنوعی“ ماحول سے ہوا، جسے سماج کہتے ہیں۔ فرق ایک طرف یہ ہے کہ فطرت کی نسبتاً سادگی کے مقابلے میں انسانی سماج کا کردار بہت پیچیدہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ انسانی سماج میں تبدیلی کا عمل، فطری انتخاب کے ارتقائی عمل کی انتہائی غیر معمولی سست روی کے مقابلے میں بہت تیز رفتار ہوتا ہے۔ پیداوار کے سماجی تعلقات کی بنیاد پر ہی پُر پیچ قانونی اور سیاسی شکلیں اپنی نظریاتی، ثقافتی اور مذہبی عکاسی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ شکلوں اور نظریات کے اس پیچیدہ ڈھانچے کو بعض اوقات سماج کا بالائی ڈھانچہ (Super Structure) بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بھی ہمیشہ معاشی بنیادوں پر ہی استوار ہوتا ہے، لیکن یہ بالائی ڈھانچہ، معاشی بنیادوں سے اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے اور پھر اسی پر براہمان ہو کر یہ سب کچھ کرتا ہے اور کبھی کبھار تو فیصلہ کن انداز میں کرتا ہے۔ بنیاد اور بالائی ڈھانچے کے مابین یہ جدلیاتی تعلق بہت پیچیدہ ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ واضح اور صاف بھی نہیں ہوا کرتا۔ لیکن آخری تجربے میں معاشی بنیاد ہی فیصلہ کن ثابت ہوا کرتی ہے۔ جائیداد کے رشتے ہی، طبقات کے مابین تعلقات کا قانونی اظہار ہوا کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ تعلقات، اپنے قانونی اور سیاسی اظہار میں، پیداواری قوتوں کی ترقی میں معاونت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پیداواری قوتوں کی ترقی، مرحلہ جائیدادوں کے رشتوں کی پیش کردہ حدود کو سامنے لے آتی ہے۔ موخر الذکر بعد میں پیداواری قوتوں کی ترقی کے رستے میں رکاوٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور یہیں کہیں وہ مرحلہ موجود ہوتا ہے جہاں ہم انقلاب کے عہد میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔

خیال پرست انسانی شعور کو سبھی انسانی افعال کی وجہ محرکہ اور تاریخ کا جذبہ محرکہ قرار دیتے ہیں لیکن تمام انسانی تاریخ جو ثابت کرتی ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ عمومی طور پر انسانی شعور ترقی پسند یا انقلابی نہیں ہوتا۔ واقعات کے عمل کے معاملے میں یہ بہت سست اور انتہائی قدامت پسند ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ تبدیلی کو پسند نہیں کرتے۔ تبدیلی کے اس موروثی خوف کی جڑیں

اجتماعی نفسیات میں بہت گہرائی تک پیوست ہوتی ہیں۔ یہ اس دفاعی میکزم کا حصہ ہے جو کہ نوع انسانی کے قدیم ماضی سے جڑا چلا آ رہا ہے۔ ایک عمومی اصول کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سماج اس وقت تک آگے پیش قدمی نہیں کرتا جب تک کہ اس کو انتہائی ضرورت کے دباؤ کے تحت مجبور نہ کیا جائے۔ جہاں تک بھی اور جب تک ممکن ہوتا ہے مردوزن، پرانے نظریات کے ساتھ خلط ملط ہو کے، ان پر غور و فکر کئے بغیر، لگے بندھے طریقے سے تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ بنے بنائے راستوں پر چلتے رہتے ہیں۔ جس طرح کسی مشینری میں موجود تو انائی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے ایسے ہی روایت، عادت اور یکسانیت انسانی ذہن پر بہت بڑا بوجھ بنی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج پر حاوی نظریات، واقعات سے بہت پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس نظر پاتی جمود کو توڑنے کیلئے واقعات کے آہنی ہتھوڑوں اور طوفانی تھپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کے بعد ہی لوگ مروجہ نظام، اس کے نظریات اور اس کی اقدار بارے سوچنا اور سوال کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ سارا انقلاب اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ معاشی ترقی اور موجود سماجی ڈھانچے کے مابین نپتے چلے آ رہے تضادات، اب ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ یہ مرکزی تضاد صرف اسی صورت ہی ختم یا حل کیا جاسکتا ہے کہ مروجہ نظم و نسق کو اکھاڑ پھینک دیا جائے اور اس کو نئے سماجی تعلقات سے آشنا اور استوار کیا جائے جن کی مدد سے معاشی بنیادوں کو بالائی ڈھانچے کے ساتھ ہم آہنگ کیا اور رکھا جاسکے۔ ایک انقلاب کے دوران سماج کی معیشت کو بنیادی نوعیت کی تبدیلی کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہی قانونی اور سیاسی بالائی ڈھانچہ ایک کامل اور موثر تبدیلی سے گزرتا ہے۔ ہر معاملے میں نئے اور اعلیٰ پیداواری تعلقات پرانے سماج کی کوکھ سے جنم لے کر پل پچکے ہوتے ہیں اور تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ نئے سماجی نظام کی فوری ضرورت کو یقینی بنایا جائے۔

## تاریخی مادیت

مارکسزم اس چھپے ہوئے جوہر کا تجزیہ کرتا ہے جو کہ اولین قبائلی سماج سے لے کر موجودہ جدید سماج کی ترقی کے پیچھے کا فرما چلا آ رہا ہے۔ اس ٹیڑھے رستے کی کھوج لگانے کا طریق کار، تاریخ

کی مادی تعبیر کہلاتا ہے۔ یہ سائنسی طریق کار ہمیں تاریخ کو سمجھنے کی سُدھ بدھ فراہم کرتا ہے، لیکن یہ تاریخ کو بے ربط اور ان دیکھے واقعات کا سلسلہ نہیں سمجھتا بلکہ اسے ایک قابل فہم اور مربوط عمل کے طور پر پرکھتا ہے۔ یہ عمل اور رد عمل کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو سیاست، معیشت سمیت سماجی ترقی کے کُلھی طرز کا احاطہ کرتا ہے۔ ان تمام مظاہر کے مابین پیچیدہ جدلیاتی تعلق کو سمجھنا ہی تاریخی مادیت کا فریضہ ہے۔ ”رومن سلطنت کا زوال اور انہدام“ کے مصنف اور عظیم برطانوی مورخ ایڈورڈ گین نے لکھا ہے کہ انسانی تاریخ ”نسل انسانی کی بیوقوفیوں، جرائم اور بد قسمتیوں کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے۔“ تاریخ کی جدید ترین مابعد الحدید (Post Modernist) تشریح بھی اپنی اصل میں کچھ نیا نہیں کہہ پائی اور ابھی تک بات وہیں کی وہیں ہے جس کے مطابق تاریخ محض ”بیان کی گئی باتوں“ کا غیر مربوط سلسلہ ہے جس کا کوئی نامیاتی ربط نہیں اور جو اندرونی معانی اور منطق سے محروم ہے، کسی بھی سماجی معاشی نظام کو ایک دوسرے سے بہتر یا بدتر نہیں قرار دیا جاسکتا چنانچہ ترقی یا بد حالی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مابعد الحدید یکتہ نظر کے مطابق تاریخ اتفاقیہ واقعات یا حادثات کے بے معنی اور ناقابل فہم سلسلے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ کسی قاعدے قانون کے تحت تو ہوتی نہیں کہ ہم اس کی تشریح کر سکیں۔ چنانچہ اسے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرنا کارزیاں ہے۔ اس تصور میں ایک تغیر جو سامنے آیا ہے اور جو کچھ علمی حلقوں میں بہت مقبول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کلچر اور سماجی ترقی کی اعلیٰ یا کمتر صورتوں جیسی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں جسے ترقی کہا جاتا ہے، ان کے نزدیک یہ انیسویں صدی کا ایک فرسودہ نظریہ ہے جسے وکٹورین لبرلز، فیمین سوشلسٹوں اور کارل مارکس نے مقبول بنایا تھا۔

تاریخ میں ترقی کا یہ انکار، زوال کا شکار بورژوازی کی اس نفسیات کو ظاہر کرتا ہے جو کہ سرمایہ دارانہ نظام کے زوال کا نتیجہ ہے۔ یہ نفسیات اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت ترقی کا عمل اپنی حدود کو پہنچ چکا ہے اور اب یہ ہر چیز کو تھس نہیں کرنے کے درپے ہو چکا ہے۔ بورژوازی اور اس کے نمائندہ دانشور اس بات کو سمجھنے اور تسلیم کرنے کے

اہل ہی نہیں ہیں۔ لینن نے ایک بار کہا تھا کہ ایک کھائی کے کنارے کھڑا فرد مقبولیت سے عاری ہو جاتا ہے۔ تاہم انہیں حقیقی صورتحال کا کچھ نہ کچھ دھندلا سا عکس دکھائی ضرور دے رہا ہے اور وہ اپنے نظام پر طاری ہو چکی پڑمردگی کے حوالے سے ادھر ادھر سے جواز اور دلائل ڈھونڈنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی حواس باختگی میں وہ ترقی کے امکان کے تصور کو ہی یکسر مسترد کرنے پر اتر آئے ہیں۔ ترقی کا تصور ان کے شعور میں اس حد تک مبہم ہو چکا ہے جیسے یہ کسی غیر انسانی دنیا کا قصہ ہو۔ یہاں تک کہ سٹیفن جے گولڈ جیسے مایہ ناز مفکر (جس کی **Dialectical Punctuated Equilibrium** کی تھیوری نے اس تصور کو ہی بدل کے رکھ دیا کہ ارتقا محسوس شدہ ہوا کرتا ہے) نے یہ دلیل دی کہ ارتقا کے ضمن میں نیچے سے اوپر کی طرف ترقی کا تصور ہی غلط ہے تاکہ مائیکرو بزم (Microbes) (ایک خلیے یا اس سے کم پر مشتمل جاندار جنہیں مائیکرو سکوپ سے دیکھا جاسکتا ہو) کو اسی سطح پر لے جایا جاسکے جہاں انسان ہوتے ہیں۔ ایک حوالے سے یہ بات درست بھی ہے کہ سبھی زندہ اشیاء ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، انسانی جینوم نے اس بات کو واضح انداز میں ثابت بھی کر دیا ہے۔ نسل انسانی کسی قادر مطلق کی تخلیق نہیں ہے بلکہ ارتقا کی پیداوار ہے۔ نہ ہی یہ درست ہے کہ ارتقا کو کسی عظیم منصوبے (Grand Design) کی ایک شکل سمجھا جائے کہ جس کا مقصد ہم جیسی مخلوق تخلیق کرنا تھا۔ تاہم ایک غلط تصور کو رد کرتے ہوئے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری انتہا تک چلے جائیں اور مزید غلطیوں کا ارتکاب کرتے جائیں۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کسی مقدر و قسم کے منصوبے کو تسلیم کرتے ہیں، خواہ اس کا تعلق کسی آسمانی مداخلت سے ہے یا علم توافق (Teleology) سے۔ لیکن یہ ضرور واضح ہے کہ ارتقائی قوانین فطرت کی میراث ہوتے ہیں اور وہی درحقیقت زندگی کی سادہ صورتوں کی زیادہ پیچیدہ صورتوں میں ترقی کو متعین کرتے ہیں۔ زندگی کی ابتدائی ترین شکلیں مستقبل کی تمام تر ترقی کے امکانات کو اپنی کوکھ میں لئے ہوئے تھیں۔ اس بات کی وضاحت ممکن ہے کہ آنکھوں، ناکوں اور دوسرے اعضا کی ترقی کیسے ہوئی، اس کیلئے کسی تقدیری منصوبے کے ذکر کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک مخصوص مرحلے پر آ کر ہم ایک مرکزی



اعصابی نظام اور ذہن سے متمکن ہوتے ہیں۔ آخر کار ہم ہومو ساپینز (Homo Sapeins) تک پہنچ کر انسانی شعور کی منزل کو پالیتے ہیں۔ یہاں مادہ اپنے بارے میں باشعور بن جاتا ہے۔ غیر نامیاتی مادے سے نامیاتی مادے (زندگی) تک کی ترقی کے عمل کے بعد سے یہ سب سے اہم ترین انقلاب ہے۔

اپنے ناقدین کو خوش کرنے کیلئے ہم اپنے نکتہ نظر میں سے ایک اقتباس پیش کرنا چاہیں گے۔ بلاشبہ مائیکرو بزا اگر اپنا کوئی نکتہ نظر رکھنے کی اہلیت رکھتے تو شاید وہ بہت سنجیدہ اعتراضات اٹھاتے، لیکن چونکہ ہم انسان ہیں اس لئے ہمیں لازم ہے کہ ہم چیزوں کو ویسے دیکھیں جیسی وہ انسانی آنکھوں سے نظر آرہی ہوتی ہیں اور ہم یہ اصرار کرتے ہیں کہ ارتقا دراصل زندگی کی سادہ شکلوں سے زیادہ پیچیدہ اور مختلف الطرز شکلوں کی طرف ترقی کو پیش کرتا ہے، دوسرے الفاظ میں زندگی کی خچلی سے اعلیٰ شکلوں کی طرف ترقی۔ اس قسم کی ترتیب پر اعتراض کرنا کسی حد تک بے نکا اور سائنسی کی بجائے دانشورانہ لگتا ہے۔ تاہم یہ سب کہنے سے ہرگز یہ مقصد نہ لیا جائے کہ مائیکرو بزا کے خلاف بات کی جارہی ہے۔ جو بہر حال ہم سے کہیں زیادہ طویل عرصے تک موجود رہے اور اگر سرمایہ دارانہ نظام کو اکھاڑ کر نہیں پھینکا جاتا تو شاید وہی ہوں جنہیں آخری ہنسی ہنسنے کا موقع مل جائے۔

## تاریخ کی قوتِ محرکہ

اپنی کتاب سیاسی معاشیات پر تنقید (The Critique of Political Economy) میں مارکس نے پیداواری قوتوں اور بالائی ڈھانچے کے مابین تعلقات کی اس طرح نشاندہی کی ہے:

”اپنی پیدا کردہ سماجی پیداوار کے بعد انسان ایسے بندھن میں بندھ جاتے ہیں جو کہ ان کی خواہشات سے آزاد اور راسخ ہوتے ہیں۔ یہ پیداواری رشتے، مادی پیداواری قوتوں کی ترقی کے

ایک یقینی مرحلے کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں۔ مادی زندگی میں طرز پیداوار ہی زندگی کے سماجی، سیاسی اور روحانی پہلوؤں کا تعین کرتی ہے۔ یہ انسانوں کا شعور نہیں ہوتا جو کہ ان کے وجود کا تعین کرتا بلکہ اس کے برعکس ان کا سماجی وجود ان کے شعور کا تعین کرتا ہے۔“

جیسا کہ مارکس اور اینگلس نے بڑے کرب سے یہ لکھا تھا کہ تاریخ میں حصہ ڈالنے والوں کو شاید پوری طرح اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ وہ کون سے محرکات ہیں جو کہ ان کو سرگرم رکھتے تھے، چاہے ان کے بارے ہم ایسے یا ویسے، جس قسم کے بھی دلائل اور جواز تلاش کرتے رہیں، لیکن ان محرکات کا وجود تھا اور ان کی حقیقی دنیا میں بنیادیں بھی تھیں۔

جیسا کہ چارلس ڈارون نے وضاحت کی ہے کہ انواع دائمی نہیں ہوا کرتیں بلکہ ان کا ایک ماضی، حال اور مستقبل بھی ہوتا ہے اور یہ کہ یہ بدلتی اور ترقی کرتی ہیں۔ ایسے ہی مارکس اور اینگلس نے کہا کہ ایک موجود سماجی نظام بھی جتنی اور دائمی نہیں ہوا کرتا۔ یہی ہر عہد کا واہمہ چلا آ رہا ہے۔ ہر سماجی نظام یہی سمجھے چلا آ رہا ہے کہ صرف وہی انسانوں کے زندہ رہنے کی واحد ممکنہ صورت ہے۔ اس کے ادارے، اس کا مذہب، اس کی اخلاقیات ہی حرف آخر ہیں۔ آدم خوروں سے لے کر مصری پادریوں تک اور میری انتوائنت (Marie Antoinette) سے لے کر روس کے زار تک سب کا یہی کامل ایمان تھا۔ آج بورژوازی اور اس کے معذرت خواہ بھی اسی قسم کے یقین کا مظاہرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں اور ہمیں معمولی سی تسلی دلائے بغیر یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ”فری انٹرنیشنلزم“ کا نظام ہی واحد ممکنہ نظام ہے۔ یہ یقین دہانی بھی ایسے وقت شدت سے کرائی جا رہی ہے کہ جب یہ نظام ڈوب رہا ہے۔

آج کل نظریہ ارتقا کو کم از کم پڑھے لکھوں میں عمومی مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ ڈارون کے نظریات جو کہ اس کے عہد میں انقلابی سمجھے جاتے تھے، اب انہیں الہامی سمجھا جانے لگا ہے۔ تاہم ارتقا کو عام طور پر ایک ایسا سست اور تدریجی عمل سمجھا جاتا ہے جس میں کوئی مداخلتیں یا تند و تیز سرکشیاں رونما نہیں ہوتیں۔ سیاست میں اس قسم کی منطق کو تو اترا

کے ساتھ اصلاح پسندی کیلئے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ بد قسمتی سے یہ ایک غلط فہمی پر مبنی ہے۔ آج بھی ارتقا کے حقیقی میکروزم کا معاملہ ویسے ہی ہے جیسے ایک کتاب سات صدوقوں میں بند ہو۔ یہ بات کچھ حیران کن لگتی ہے کہ ڈارون کو خود بھی اس بات کی سمجھ نہیں آسکی۔ دس سال یا اس سے کچھ زیادہ وقت ہو چلا کہ جب سٹینن جے گولڈ نے، جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، علم ارضیات میں نئی دریافتیں کیں جن سے یہ ثابت ہوا کہ ارتقا ایک تدریجی عمل نہیں۔ ایسے بہت طویل عرصے بھی بیتے ہیں جب کوئی بڑی تبدیلیاں مشاہدے میں نہیں آئیں۔ لیکن ایسے میں ہی ایک مخصوص مرحلے پر ارتقا کا یہ خط ایک دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔ ان میں وہ حقیقی حیاتیاتی انقلاب بھی شامل ہے کہ جس دوران کئی انواع بڑے پیمانے پر نیست و نابود ہو گئیں جبکہ کئی ایک تیزی سے ابھر کے سامنے بھی آئیں۔

سماج اور فطرت کے مابین مطابقت بہر حال تخمینے پر ہی مبنی ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود تاریخ کا مصنوعی ترین مشاہدہ اور تجزیہ یہی ثابت کرتا ہے کہ تدریجی وضاحت قطعی بے بنیاد ہے۔ سماج بھی فطرت کی مانند، سست اور تدریجی تبدیلی کے طویل المیعاد عرصوں سے گزرتا ہے لیکن جنگوں اور انقلابات جیسے دھماکوں سے تبدیلی کا عمل، شدت کے ساتھ تیز رفتار ہو جاتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ یہی واقعاتی عناصر ہی تاریخی ترقی کی قوت محرکہ کا کام دیتے ہیں۔ انقلاب کی بنیادی وجہ یہ حقیقت ہوتی ہے کہ ایک مخصوص سماجی معاشی نظام اپنی حدود کو پہنچ چکا ہے اور یہ پہلے کی مانند پیداواری قوتوں کو ترقی دینے کے قابل نہیں رہا۔

## تاریخ کی رنگارنگی

وہ لوگ جو انسانی سماجی ترقی کے قوانین سے انکار کرتے ہیں وہ چاروناچار تاریخ کو ایک موضوعی اور اخلاقی نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن گہن کی طرح (اس کی غیر معمولی صلاحیت سے قطع نظر) یہ سب لوگ اس بیہودہ وحشیانہ تشدد کو سر کھاتے ہوئے ہی دیکھتے ہیں کہ جس کے دوران انسان، انسان ہی کے خلاف غیر انسانی سلوک کرتا نظر آتا ہے۔ ایک سائنسی نکتہ نگاہ کی بجائے

ہمیں ایک فرد کی سوچ حاوی نظر آتی ہے۔ تاہم معاملہ اخلاقی بند و نصیحت کا نہیں بلکہ ایک معقول بصیرت کا متقاضی ہے۔ ادھر ادھر کے حقائق سے قطع نظر اور بالاتر ہو کر یہ لازمی ہے کہ ایسے وسیع النظر اور کشادہ رجحانات دریافت کئے جائیں کہ جن سے ایک سے دوسرے سماجی نظام کی طرف تبدیلیاں ممکن ہو سکیں اور وہ بنیادی قوت محرکہ دریافت کی جائے جو کہ ان تبدیلیوں کا تعین کر سکے۔ تاریخ کی بابت، جدیدیاتی مادیت کا طریقہ کار استعمال کرنے سے یہ فوری طور پر آشکار ہو جاتا ہے کہ انسانی تاریخ اپنے ہی قوانین رکھتی ہے اور یہ بھی کہ انسانی تاریخ کو ایک جاری عمل کے طور پر سمجھنا ممکن ہے۔ مختلف سماجی و معاشی نظاموں کے عروج و زوال کو سائنسی طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانی تہذیب و ثقافت کس طرح سے پروان چڑھی اور کیسے انسان کے فطرت پر غلبے کو تقویت ملی! بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سماج ہمیشہ سے لگا بندھا چلا آ رہا ہے اور یہ بھی کہ مذہب، اخلاقیات اور نظریاتی اقدار حتمی اور بے بدل ہوتے ہیں اور ان سب کے ساتھ انسانی فطرت بھی جوڑ دی جاتی ہے۔ لیکن تاریخ کے بارے ہلکی سی سوجھ بوجھ بھی یہ ظاہر کر دیتی ہے کہ یہ غلط ہے۔ تاریخ بہت سے سماجی معاشی نظاموں کے عروج و زوال سے بھری پڑی ہے۔ انفرادی مردوزن کی طرح سماج بھی پیدا ہوتے، پروان چڑھتے، اپنی حدود کو پہنچتے، انحطاط کا شکار ہوتے ہیں اور آخر کار ایک نیا سماجی نظم و نسق ان کی جگہ لے لیتا ہے۔

آخری تجزیے میں کسی بھی سماجی و معاشی نظام کی اہلیت کا تعین اس کی پیداواری قوتوں کو ترقی دینے کی صلاحیت کرتی ہے۔ مذہب، سیاست، فلسفہ، اخلاقیات، مختلف طبقات کی نفسیات اور لیڈروں کی انفرادی خصوصیات جیسے بہت سے دوسرے عناصر اس پر بیچ معاملے میں مداخلت کرتے ہیں۔ لیکن پھر یہ سب کچھ بادلوں میں سے نہیں ٹپکتا اور ان حالات میں ہوتا ہے جو مردوزن کی خواہشات سے آزاد ہوتے ہیں۔ ایک سماج جو کہ عروج کی کیفیت میں ہو، جو اپنی پیداواری قوتوں کو ترقی دے رہا ہوتا ہے اور تہذیب و ثقافت کے نئے روشن پہلوؤں کو بڑھاوا دے رہا ہو، وہ اس سماج سے کہیں مختلف نفسیات کا حامل ہوتا ہے کہ جو جمود اور انحطاط کی حالت میں پہنچا ہوا ہو۔ تاریخی صورتحال ہی ہر شے کا تعین کرتی ہے اور یہ موجود اخلاقی فضا کے ساتھ ساتھ مردوزن

کے مروجہ سیاسی و مذہبی اداروں کے بارے میں رویوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ انفرادی لیڈروں کی صلاحیتوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام نے اپنے شباب کے دنوں میں کئی دیوبہکل کارہائے نمایاں سرانجام دیے، اس نے پیداواری قوتوں کو غیر معمولی سطح پر ترقی دی جس کی مدد سے یہ اس قابل ہوا کہ انسانی تہذیب کی سرحدوں کو بہت پیچھے چھوڑ گیا۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ نظام کا خاصا چلی آرہی تمام نا انصافیوں اور استحصال کے باوجود سماج آگے جا رہا تھا۔ اس احساس نے ایک عمومی رجائیت اور ترقی کی روح کو پروان چڑھایا جو کہ پرانے لبرلزم کا خاصا تھا جسے یہ پختہ یقین ہوتا تھا کہ آج کا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے اور آنے والا کل آج سے اچھا ہوگا۔ لیکن اب ایسی کوئی کیفیت ہے نہ حالات۔ ترقی بارے قدیم خوش گمانی، رجائیت اور اندھے اعتماد کی جگہ اب حال بارے اتھاہ بدگمانی اور مستقبل بارے شدید مایوسی نے لے لی ہوئی ہے۔ ہر طرف، ہر جگہ اور ہر سطح پر خوف اور عدم تحفظ کا یہ احساس اس حقیقت کی نفسیاتی عکاسی کرتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اب کہیں بھی کوئی ترقی پسندانہ کردار ادا کرنے کی اہلیت سے محروم ہو چکا ہے۔ 19 ویں صدی میں لبرلزم نے بورژوازی کے ایک نظریے کے طور پر ترقی کی اور جمہوریت کیلئے اقدامات کئے۔ لیکن آج کے عہد کا نیولبرلزم محض ایک نقاب ہے جس کے پیچھے انتہائی سفاکانہ استحصال کا مکروہ چہرہ چھپا ہوا ہے۔ کرہ ارض کے ساتھ زنا بالجبر کیا جا رہا ہے اور مستقبل کی نسلوں کی زندگیوں بارے پرواہ کیے بغیر ماحول کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیوں کے بورڈز میں براجمان لوگوں، جو کہ امریکہ سمیت ساری دنیا پر حکمرانی مسلط کئے ہوئے ہیں، کا اول و آخر ایک ہی مقصد حیات ہے کہ یہ اپنے آپ کو امیر سے مزید امیر کرتے جائیں، زیادہ سے زیادہ لوٹ مار کر کے، اثاثوں کو ہڑپ کر کے، بدعنوانی کر کے، نجکاری کے ذریعے عوامی اداروں کو بیچ کھا کے، ہر قسم کی طفیلیت کرتے ہوئے۔۔۔ ایک گہرے زوال کی حالت میں بورژوازی صرف یہی کارہائے نمایاں سرانجام دے رہی ہے۔

سماجوں کا عروج و زوال

”ایک سماج سے دوسرے سماج میں تبدیلی کے عمل کا تعین ہمیشہ سے پیداواری قوتوں کی ترقی سے ہوتا چلا آرہا تھا، جو تکنیک اور محنت کی تنظیم سے منسلک تھی۔ ایک مخصوص مقام تک سماجی تبدیلیاں اپنے کردار میں مقداری رہتی ہیں اور وہ سماج کی بنیادوں یعنی جائیدادوں کی مردوبہ شکلوں کو کچھ نہیں کہا کرتیں۔ لیکن پھر وہ مرحلہ آجاتا ہوتا ہے کہ جب پختہ ہو چکیں پیداواری قوتیں جائیداد کی پرانی شکلوں کے اندر خود کو موزوں نہیں سمجھتیں، ایسے میں سماجی نظم میں ایک بنیادی تبدیلی واقع ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ جو کہ سماج کو ہلا دینے والے واقعات میں دھکیل دیتی ہے۔“ (مارکسزم، ہمارے عہد میں۔ لیون ٹراٹسکی۔ اپریل 1939ء)

سوشلزم بارے ایک عام دلیل یہ دی جاتی ہے کہ انسانی فطرت کو تبدیل کرنا سراسر ناممکن ہے، کیونکہ لوگ فطری پر خود غرض اور لالچی اور وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسانی فطرت جیسی کوئی مافوق التاریخ چیز نہیں ہوا کرتی۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ انسانی فطرت، انسانی ارتقا کے عمل کے دوران کئی بار تبدیلی کے مراحل سے گزری ہے۔ مردوزن مسلسل محنت کے ذریعے فطرت کو بدلتے رہتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے وہ خود کو بھی بدل رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک اس منطق کی بات ہے کہ لوگ فطری طور پر لالچی اور خود غرض ہوتے ہیں تو یہ بات انسانی ارتقا کے عمل سے غلط ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے ابتدائی آباؤ اجداد جو کہ پوری طرح انسان نہیں تھے، اور باقی جانداروں کی بہ نسبت قد و قامت میں چھوٹے اور جسمانی طور پر کمزور بھی تھے۔ ان کے دانت اور کلایاں بھی مضبوط نہیں تھیں۔ ان کی جھکی ہوئی کمریہ بتاتی ہے کہ وہ اپنے مطلوبہ شکار کو پکڑ کر کھانے کیلئے یا پھر کسی درندے سے بچنے کیلئے، جو انہیں کوکھا جانے کے درپے ہوتا تھا، صحیح طور پر بھاگ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کے دماغ کا سائز بھی چیمپنزی کے دماغ جتنا ہوتا تھا۔ شمالی افریقہ کے جنگلوں میں گھومتے پھرتے ہمارے ان آباؤ اجداد کو دوسری زندہ انواع کے مقابلے میں بہت سی کمزوریاں گھیرے ہوئے تھیں۔۔۔ سوائے ایک بنیادی پہلو کے۔

اینگلزا نے اپنے شاندار مضمون ”بندر سے انسان تک کے سفر میں محنت کا کردار“ میں لکھتا ہے کہ کھڑے ہونے کی پوزیشن نے ہاتھوں کو آزاد کیا جو کہ پہلے ایسی حالت میں ہوتے تھے کہ جن کی

مدد سے درختوں پر چڑھا اور دوسرے افعال کئے جاسکتے تھے۔ پتھروں کے اوزاروں کی تخلیق ایک معیاری جست ثابت ہوئی جس نے ہمارے آباؤ اجداد کو ارتقائی فوقیت سے ہمکنار کیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ان کا یکجہانیت، اجتماعی پیداوار اور سماجی زندگی کا مضبوط احساس تھا، اس کی بدولت ہی زبان کی ترقی ممکن ہوئی۔ ہمارے آباؤ اجداد، جن کی مل کر شکار کرنے کی مجبوری، انہیں خوراک کی جستجو میں ایک جگہ سے دوسری ہجرت کرنے پر مجبور کرتی رہتی تھی، ایسے میں انسانی بچوں کی باقی جانوروں کے بچوں کی نسبت حد سے زیادہ کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے تحفظ کے لئے باہمی جڑت اور یکجہتی کی ضرورت کو جنم دیا اور یہی جڑت ان کے قبیلے یا گوت کے تحفظ کی بھی بنیاد بنی۔ ہم کامل یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تعاون اور یکجہتی کے اس مضبوط احساس کے بغیر ہماری نوع انسانی اپنی پیدائش سے پہلے ہی معدوم ہو چکی ہوتی۔

ہم اس کا مشاہدہ آج بھی کر سکتے ہیں، اگر آج کوئی بچہ ڈوب رہا ہو تو بہت سے لوگ اپنی جانوں کی پرواہ کئے بغیر اس کو بچانے کیلئے پانی میں کود پڑیں گے۔ بے شمار لوگ دوسروں کو بچاتے ہوئے ڈوب کے مرے بھی ہیں۔ اسے محض متکبرانہ نتائج کی صورت میں بیان نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اسے ایک چھوٹے قبائلی گروہ کے خون کے رشتوں کے بندھن سے جوڑا جاسکتا ہے۔ ایسا کرتے وقت ایسے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کسے بچانے جا رہے ہیں اور نہ ہی کسی انعام یا اجر کی غرض ہوتی ہے۔ یہ بے غرضانہ رویہ مطلق خود رو ہوتا ہے اور اس کی جڑیں کہیں دور گہرائی میں، یکجہتی کی جبلت میں پیوست ہوتی ہیں۔ یہ دلیل کہ لوگ فطری طور پر خود غرض ہوتے ہیں، انسانیت کے چہرے پر توہین آمیز طمانچہ ہے۔ یہ سوچ دراصل سرمایہ دارانہ سماج کی بد صورت اور انسان کش بیگانگی کی عکاسی کرتی ہے۔ ہماری نوع انسانی کی تاریخ کا بہت بڑا وقت وہ تھا کہ جب لوگ ایسے سماجوں میں رہتے تھے جہاں آج کے جدید معنوں میں نجی ملکیت نہیں ہوتی تھی، کوئی نقدی نہیں ہوتی تھی، کوئی مالک کوئی نوکر نہیں ہوتا تھا، کوئی بینکار کوئی جاگیر دار نہیں ہوتے تھے، نہ ریاست تھی نہ منظم مذہب، نہ پولیس اور نہ ہی قید خانے۔ یہاں تک کہ ہمارے آج کے مروجہ معنوں میں خاندان بھی وجود نہیں رکھتا تھا۔ آج ہم میں سے بہت سوں کیلئے ایک ایسی دنیا کا تصور بھی محال ہے

کہ جس میں یہ سب کچھ نہ ہو۔ یہ سب اس قدر فطری معلوم اور محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قادر مطلق کے بنائے ہوئے قانون کے عین مطابق ہو۔ حالانکہ ہمارے آباؤ اجداد ان سب کے بغیر بہت احسن طریقے سے معاملات چلاتے رہے ہیں۔ اجتماعی شکاری سماج سے مضبوط زراعت اور مزارعت کی جانب پیش رفت، پہلا عظیم سماجی انقلاب تھا جسے عظیم آسٹریلیوی ماہر آثار قدیمہ اور مارکسٹ گورڈن چائلڈ ”نیولیتھک انقلاب“ قرار دیتا ہے۔ کھیتی باڑی کیلئے پانی درکار ہوتا ہے، جب یہ ایک خاص سطح کی انتہائی بنیادی پیداوار سے آگے بڑھتی ہے تو اس کیلئے آبپاشی، کھدائی، ڈیم سازی اور بڑے پیمانے پر پانی کی ترسیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سماجی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بڑے پیمانے کی آبپاشی کیلئے بڑے پیمانے کی تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کیلئے بہت زیادہ کام کرنے والوں اور ایک اعلیٰ سطح کی تنظیم اور نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ محنت کی تقسیم پہلے بھی بچوں کی پیدائش اور ان کی نشوونما کی بنیاد پر صنفی تقاضوں کی بنیاد پر اپنی ابتدائی شکل میں موجود چلی آرہی تھی۔ یہ تقسیم ایک بلند پیمانے پر ترقی پاتی چلی گئی۔ ٹیم کی شکل میں کام کرنے کیلئے ٹیم لیڈروں، فورمینوں اور نگرانوں وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایسے افسروں کی ایک فوج کی بھی کہ جو اتنے بڑے منصوبے کی نگرانی بھی کر سکیں۔ اتنے وسیع پیمانے پر باہمی تعاون کیلئے منصوبہ بندی کے ساتھ سائنس اور ٹکنیک کی مشق کی بھی درکار ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ان چھوٹے گروہی قبیلوں کے بس کی بات نہیں تھی جنہوں نے قدیم سماج کے مرکزے کی بنیاد رکھی تھی۔ بڑی تعداد میں کام کرنے والوں کو منظم اور متحرک کرنے کی ضرورت نے ایک مرکزی ریاست کے قیام کا رستہ ہموار کیا جس کی ایک مرکزی انتظامیہ اور فوج بھی ہو جیسا کہ مصر اور میسوپوٹیمیا میں ہوا۔ وقت کا استعمال اور تخمینہ سازی، پیداوار کے لازمی عناصر تھے اور یہ اپنے اندر ایک پیداواری قوت تھے۔ چنانچہ ہیروڈوٹس نے مصر میں جیومیٹری کا آغاز کیا تاکہ خالی زمینوں کی سالانہ بنیادوں پر دوبارہ سے حد بندی کی جاسکے۔ لفظ جیومیٹری کا مطلب بھی یہی ہے کہ زمین کی نہ کم نہ زیادہ پیمائش۔ کائنات، فلکیات اور ریاضی کے مطالعے نے مصر کے پادریوں کو یہ اہلیت فراہم کر دی کہ وہ دریائے نیل میں طغیانی اور دوسری پیش گوئیاں کریں۔ چنانچہ معاشی



سرگرمی نے سائنس کی بنیاد رکھی۔ اپنی کتاب ”مابعدالطبیعات“ میں ارسطو کہتا ہے کہ ”انسان زندگی کی سہولتیں فراہم ہونے کے بعد سب سے پہلے خود کو فلسفے سے روشناس کراتا ہے۔“ کارل مارکس سے 2300 سال پہلے ارسطو کے یہ الفاظ، تاریخی مادیت کے دل کی آواز ہیں۔

امیر اور غریب، حکمران اور رعایا، تعلیم یافتہ اور ان پڑھ کے مابین فاصلے کی بنیادی وجہ ذہنی اور جسمانی محنت کی تقسیم ہے۔ فورمین عام طور پر جسمانی محنت نہیں کیا کرتا جو کہ ایک اہانت تصور کی جاتی ہے۔ بائبل میں ”لکڑیاں کاٹنے والوں اور پانی بھرنے والوں“ کا تذکرہ ہے کہ جنہیں ثقافت سے باہر رکھا جاتا تھا۔ ثقافت، جو کہ کئی پراسرار اور جادوئی پردوں میں لپیٹی ہوئی ہوتی تھی اور جس کے رازوں کے تحفظ کی ذمہ داری پادریوں اور پڑوتوں نے اپنے سر لی ہوئی تھی اور وہی اس کے اجارہ دار بنے ہوئے تھے۔ یہاں ہم ایک طبقاتی سماج کے خدوخال دیکھتے ہیں۔ سماج استحصال کرنے والوں اور نیم استحصال کرنے والوں میں بنا ہوا تھا۔ ہر اس سماج میں جہاں آرٹ، سائنس اور حکومت پر اقلیت کی اجارہ داری ہوگی، یہ اقلیت اپنی پوزیشن کو اپنے مفادات کیلئے اچھے برے ہر طریقے سے استعمال کرے گی۔ طبقاتی سماج کا یہ سب سے بنیادی راز ہے جو کہ پچھلے 12000 سالوں سے کارفرما اور کارگر چلا آ رہا ہے۔ اس دوران سماجی اور معاشی زندگی کی شکلوں میں بہت سی بنیادی تبدیلیاں بھی رونما ہوئی ہیں لیکن حاکموں اور محکوموں، امیروں اور غریبوں، لوٹنے والوں اور لٹنے والوں کے درمیان بنیادی تعلقات ویسے کے ویسے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح حکومت کرنے کی شکلیں بھی تبدیل ہوئیں لیکن ریاست کا کردار ویسے کا ویسا رہا۔ یہ جبر کا اوزار بنی اور حکمران طبقے کی حکمرانی کا اظہار چلی آ رہی ہے۔ غلام دارانہ سماج کے عروج و زوال کے بعد جاگیرداری نے یورپ میں غلبہ حاصل کر لیا اور بعد میں سرمایہ داری نے اس کی جگہ لے لی۔ ہالینڈ اور اٹلی کے شہروں اور قصبوں میں سے ابھرنے والی ابتدائی بورژوازی، سولہویں اور سترہویں صدی میں ہالینڈ اور برطانیہ میں ہونے والے سرمایہ دارانہ انقلابات اور اس کے بعد فرانس کے 1789ء کے عظیم انقلاب کے بعد فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوئی۔ ان سبھی تبدیلیوں

اور فلسفے میں بہت دور رس تبدیلیاں

کے دوران کلچر، آرٹ، لٹریچر، مذہب  
و قوع پذیر ہوئیں۔

## ریاست

ریاست جبر کی ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کہ سماج سے بالا ہوتی ہے اور جو اپنے آپ سے خود کو تیزی سے بیگانہ بھی کرتی رہتی ہے۔ اس طاقت کی جڑیں قدیم ماضی میں پیوست چلی آ رہی ہیں لیکن حالات کی مناسبت سے اس کی شکلیں بدلتی رہی ہیں۔ جرمنوں اور آباء امریکیوں کیلئے اس کا ظہور جنگی بینڈ باجوں سے ہوا جو جنگ کی قیادت کرنے والے کے گرد گائے بجائے جا رہے تھے۔ یہی معاملہ یونانیوں کے ساتھ ہوا جس کا احوال ہمیں ہومر کی عظیم نظموں میں ملتا ہے۔ حقیقت حال یہ تھی کہ قبائلی سرداروں کو اپنی ذاتی بہادری، دانش اور دیگر ذاتی صفات کی وجہ سے بہت اختیار حاصل ہوتے تھے۔ آج حکمران طبقے کو قیادت کی ذاتی صفات سے اس طرح سے کوئی سروکار نہیں ہے جیسا کہ بربریت کے عہد میں ہوتا تھا۔ اس کے برعکس اس کی جڑیں معروضی، سماجی اور پیداواری تعلقات اور سرمائے کی طاقت سے وابستہ ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قیادت کرنے والا اچھا ہے یا برا، یا پھر بے نیاز۔ طبقاتی سماج کی اولین شکلیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ریاست کس طرح ایک درندے کی طرح قدر زائد کے بڑے حصے کو ہڑپ کر جاتی تھی، عوام کو دبائے رکھتی تھی اور انہیں ان کے حقوق سے محروم رکھتی تھی۔ اسی دوران ہی یہ محنت کی تقسیم کو بڑھاتی، سماج کو منظم کرتی اور تعاون کو پہلے سے کہیں بلند و بالا سطح تک لے جاتی کہ جس کی بدولت یہ انسانی پیداواری محنت کو خواب و خیال جیسی بلندی تک پہنچاتی رہی۔ اپنی بنیاد میں یہ سارا کچھ کسانوں کی محنت کے بل بوتے پر تھا۔ ریاست کو بڑی تعداد میں کسانوں کی ضرورت ہوتی تھی کہ جو ٹیکس بھی دے سکیں اور ہر قسم کی ریگا محنت بھی کر سکیں۔ انہی دوستوں پر ہی سماج استوار رہا۔ جو بھی اس پیداواری نظام کو کنٹرول کرتا تھا وہی طاقت اور ریاست کو بھی کنٹرول کرتا تھا۔ ریاستی طاقت کی جڑیں اور بنیادیں پیداواری تعلقات میں پنہاں تھیں نہ کہ ذاتی خوبیوں میں۔ اس قسم کے

ساجوں میں ریاستی اقتدار لازمی طور پر مرکوز اور افسر شاہانہ ہوتا تھا۔ اپنی نوع میں یہ ایک مذہبی کردار کا حامل اور پابائیت کی طاقت سے مخلوط تھا جس کی سربراہی دیوتا نما بادشاہ کرتا اور جس کے نیچے افسروں، مصاحبوں، نگرانوں وغیرہ کی ایک فوج ہوا کرتی تھی۔ لکھنا ایک پراسرار آرٹ تھا جو کہ انہی چند لوگوں تک ہی محدود ہوتا تھا۔ چنانچہ اپنی ابتدا سے ہی ریاست کے دفاتر پراسرار چلے آ رہے ہیں۔ جہاں حقیقی سماجی تعلقات ایک بیگانہ کیفیت میں موجود ہوتے ہیں۔ معاملہ اب تک ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ برطانیہ میں اس پراسراریت کو شعوری طور پر اہتمام کے ساتھ، جشن، نمائش اور روایت کے ذریعے پروان چڑھایا جاتا ہے۔ امریکہ میں اس کیلئے اور قسم کے ذرائع استعمال کئے جاتے ہیں، ان میں صدر کی شان بان بھی شامل ہے، جو ریاستی طاقت کے مجسم تشخص کا نمائندہ قرار دیا جاتا ہے۔ تاہم اپنی اساس میں ریاست کی ہر ایک شکل ایک طبقے کے باقی سماج پر غلبے کی نمائندہ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اپنی اعلیٰ ترین جمہوری صورت میں بھی، یہ ایک طبقے، یعنی حکمران طبقے کی آمریت ہی کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ طبقہ ہی پیداواری ذرائع کا مالک اور ان کو کنٹرول کرتا ہے۔

جدید ریاست ایک افسر شاہانہ درندہ ہے جو کہ محنت کش طبقے کی پیدا کردہ دولت کے بہت بڑے حصے کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ مارکسٹ، انارکسٹوں کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ریاست استحصال کا ایک خونخوار آلہ ہے جسے لازمی طور پر ختم ہونا چاہئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہو گا، کون کرے گا اور اس کا متبادل کیا ہوگا؟ کسی بھی انقلاب کیلئے یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ بالٹویک انقلاب کے فوری بعد پھوٹ پڑنے والی خانہ جنگی کے دوران ٹراٹسکی نے انارکزم کے موضوع پر تقریر میں ریاست بارے مارکسی پوزیشن بیان کرتے ہوئے کہا تھا:

”بورژوازی کا کہنا یہ ہے کہ ریاست کو نہ چھیڑا جائے۔ یہ پڑھے لکھے طبقے کی مقدس موروثی مراعت ہے۔ جبکہ انارکسٹ کہتے ہیں کہ ریاست کو کچھ نہ کہا جائے کیونکہ یہ ایک فضول ایجاد اور بیکار آلہ ہے۔ ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہئے۔ بورژوازی کہتی ہے یہ مقدس ہے۔ انارکسٹ کہتے ہیں اسے ہاتھ بھی نہ لگایا جائے کیونکہ یہ ایک ناپاک شے ہے۔ دونوں کہتے ہیں کہ

اسے نہ چھوا جائے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اسے نہ صرف چھوا جائے بلکہ اسے اپنے ہاتھوں میں لیا جائے۔ اسے اپنے مفادات کے حصول کے لئے تشکیل دیا جائے تاکہ نجی ملکیت کا خاتمہ کیا جاسکے اور محنت کش طبقے کو نجات دلائی جاسکے۔“ (انقلاب کیسے مسلح ہوا؟ جلد 1 ٹرانسکریپٹ، 1918ء)

مارکسزم وضاحت کرتا ہے کہ ریاست مسلح افراد کا ایک جتھہ ہوتی ہے جس میں فوج، پولیس، عدالتیں اور جیلیں شامل ہوتی ہیں۔ انارکسٹوں کے مبہم نظریات کے برخلاف، مارکس نے دلیل پیش کی کہ محنت کشوں کو استحصال کرنے والوں کی مزاحمت پر قابو پانے کیلئے ایک ریاست کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن مارکس کی اس دلیل کو بورژوازی اور انارکسٹ دونوں نے بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ مارکس نے ”پرولتاریہ کی آمریت“ کی بات کی تھی جس کا سادہ سا مطلب ”محنت کشوں کا سیاسی اقتدار“ ہے۔ آج کل لفظ ”آمریت“ کے جو معانی اور تشریحات رائج ہیں، یہ مارکس کے دنوں میں اجنبی تھیں۔ ایک ایسا عہدہ جو کہ ہٹلر اور سٹالن کے ہولناک جرائم سے جانا پہچانا جاتا ہے اور جو مطلق العنان درندگی، اذیت گاہوں اور خفیہ پولیس کے دل دہلا دینے والے عناصر سے مزین ہے۔ لیکن مارکس کے وقتوں میں اس قسم کی باتوں کا تصور تک محال تھا۔ مارکس کے نزدیک آمریت کا لفظ ان معنوں میں ہی تھا جو کہ رومن امپائر میں رائج تھا کہ جب جنگ کی کیفیت میں عمومی قوانین کچھ عرصے کیلئے عارضی طور پر ایک طرف رکھ دیے جاتے تھے۔ رومن ڈیکٹیٹر ایک ایسا غیر معمولی مجسٹریٹ ہوتا تھا جو کہ ایسی اتھارٹی استعمال کرتا تھا جو کہ عام مجسٹریٹ کی روزمرہ کی اتھارٹی سے کہیں بلند ہوتی تھی۔ اس ادارے کو ”عوام کا آقا“ کہا جاتا تھا۔ یعنی شہریوں کی فوج کا آقا۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایک فوجی حکمرانی ہوتی تھی جو کہ ہمیشہ ایک ایسے وقت میں، جب فوج کو محاذ جنگ میں اتارنا ہوتا، سامنے آتی تھی۔ جو نہی مخصوص وقت ختم ہوتا تھا، آمر کا ادارہ بھی ختم ہو جاتا۔ روس میں سٹالن جیسی مطلق العنان آمریت کا تصور بھی مارکس کے روکنے کھڑے کر دیتا کہ جس میں ریاست، مراعات یافتہ افسر شاہی کے مفادات کیلئے محنت کشوں کا استحصال کرتی تھی۔ مارکس نے پرولتاریہ کی آمریت کے اپنے نظریے کی بنیاد 1871ء کے پیرس کمیون پر رکھی تھی

جہاں پہلی بار عام انسانوں نے محنت کش طبقے کی سربراہی میں پرانی ریاست کو اکھاڑ پھینکا اور کم و بیش سماج کو تبدیل کرنے کا فریضہ شروع کر دیا۔ کسی واضح عملی منصوبے، تنظیم اور قیادت کی غیر موجودگی کے باوجود عوام نے حیران کن غیر معمولی جرأت، پیش قدمی اور تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ مارکس اور اینگلس نے پیرس کمیون کے تجربے کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان کیا ”کمیون نے کم سے کم ایک بات ثابت کر کے دکھادی کہ محنت کش بنی بنائی ریاستی مشینری کے ذریعے کچھ نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے مقاصد کیلئے استعمال کر سکتے تھے۔“ (کمیونسٹ مینی فیسٹو، 1872 جرمین ایڈیشن کا دیباچہ)

سوشلزم کی طرف پیش قدمی ایک ایسے اعلیٰ سماج کی طرف سفر ہے جو حقیقی جمہوریت اور سب کیلئے بہتات کی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے، یہ سماجی تشکیل تھی ممکن ہو سکتی ہے کہ جب سماج، صنعت اور ریاست کو چلانے کے عمل میں محنت کش طبقے کی عملی شعوری شمولیت موجود ہو۔ سرمایہ دار یا افرشاهی کسی طور بھی رحمدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقتدار محنت کشوں کو نہیں سونپ سکتے۔ لینن اور ٹراٹسکی کی قیادت میں قائم ہونے والی سوویت ریاست محنت کشوں کو نظم و نسق، محاسبے کے فرائض میں شریک اور ملوث کرنے کیلئے کام کرتی رہی تاکہ افرشاهی اور ریاستی طاقت کی ”خصوصی عملداری“ کو کم سے کم کرنے کو یقینی بنایا جاسکے۔ افسروں کی تنخواہوں، اختیارات اور مراعات پر سخت پابندیاں عائد کی گئیں تاکہ ایک مراعات یافتہ پرت کی تشکیل کو روکا جاسکے۔ 1917ء کے بالشویک انقلاب کی قائم کردہ مزدور ریاست نہ تو افرشاهی تھی اور نہ ہی مطلق العنان۔ اس کے برعکس، سٹالنٹ افرشاهی کی طرف سے عوام کے اختیار غصب کرنے سے پہلے، یہ ایسی جمہوری ریاست تھی کہ جو پہلے کبھی اور کہیں موجود نہ تھی۔ سوویتوں کے اقتدار کے بنیادی اصول نہ تو مارکس اور نہ ہی لینن کے ایجاد کردہ تھے بلکہ یہ پیرس کمیون کے ٹھوس تجربے پر قائم کئے گئے تھے، جن کی بعد میں لینن نے صریحاً تشریح کی تھی۔ لینن افرشاهی کا سخت دشمن تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ ”پروٹاریہ کو ریاست کی ضرورت اس لئے اور اس وقت کیلئے ہوتی ہے کہ جب تک یہ بیک وقت ختم اور غائب نہیں ہو جاتی۔“ ایک حقیقی اور خالص مزدور ریاست کا اس قسم کی افرشاهی نہ درندہ

صفت ریاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا جو آج وجود رکھتی ہے یا جو کم از کم سٹائنٹ روس میں موجود رہی۔ لیکن نے اپنی اہم ترین تحریروں میں سے ایک ”ریاست اور انقلاب“ میں مزدور جمہوریت کی بنیادی شرائط یہ بیان کی تھیں۔

1- واپس بلائے جانے کے حق (Right to Recall) کے ساتھ، تمام افسروں کو آزادانہ انتخابات کے ذریعے منتخب کیا جائے گا۔

2- ایک ہنرمند مزدور سے کسی افسر کی بھی اجرت زیادہ نہیں ہوگی۔

3- کوئی باقاعدہ فوج یا پولیس نہیں بلکہ مسلح عوامی پلیشیا۔

4- بتدریج تمام انتظامی امور میں سب کو شریک کیا جائے گا۔ ”ایک باورچی بھی وزیر اعظم

بننے کا اہل ہوگا، ہر ایک اپنی جگہ افسر ہوگا یعنی کوئی بھی افسر نہیں ہوگا۔“

یہ وہ شرائط تھیں جو لینن نے وضع کی تھیں لیکن جو مکمل سوشلزم یا کمیونزم کیلئے نہیں بلکہ مزدور ریاست کے ابتدائی عرصے کیلئے تھیں یعنی سرمایہ دارانہ نظام سے سوشلزم کی جانب کے عبوری وقت کیلئے۔ محنت کشوں اور سپاہیوں کی سوویتوں کے نائین کی منتخب شدہ اسمبلیاں پیشہ وریاستدانوں یا افسر شاہی پر نہیں بلکہ عام مزدوروں، کسانوں اور سپاہیوں پر مشتمل تھیں۔ یہ سماج سے بلند تر کوئی بیگانہ طاقت نہیں تھی بلکہ یہ نیچے عوام سے براہ راست جڑی ہوئی اور ان کی چٹی ہوئی طاقت تھی۔ اس کے قوانین کسی طور بھی ویسے نہیں تھے جیسے ایک سرمایہ دارانہ ریاستی طاقت کی عملداری کے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت کی امریکہ اور یورپ کے جدید ترقی یافتہ ملکوں میں موجود بورژوا جمہوریوں کی طاقت سے قطعی طور پر مختلف تھی۔ یہ طاقت 1871ء کے پیرس کمیون جیسی طرز اور نوعیت کی تھی۔ یہ درست ہے کہ اس وقت موجود ہولناک پسماندگی، غربت اور ناخواندگی کے باعث روس کا محنت کش طبقہ اس طاقت کو نہیں سنبھال سکتا تھا جو اس کے ہاتھ آگئی تھی۔ انقلاب کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی جس کے نتیجے میں یہ زوال پذیری کی زد میں آتا گیا اور جو آخر کار سٹالنزم کی شکل میں بدل گیا۔ بورژوا مورخین کے دعوؤں کے برعکس سٹالنزم قطعی طور پر باشوازم کی نہیں بلکہ اس کے بدترین

دشمنوں کی پیداوار تھا۔ سٹالن کی مارکس اور لینن سے ویسی ہی نسبت تھی جیسی نیولین کی جیکو بزن کے ساتھ یا پوپ کی ابتدائی عیسائیوں کے ساتھ۔ ابتدائی سوویت ریاست کسی طور ویسی نہیں تھی جیسا کہ آج کل تاثر دیا جاتا ہے، بلکہ یہ محنت کرنے والے انسانوں کی انقلابی طاقت کا اظہار اور آئینہ دار تھی۔ مارکس کے الفاظ میں اگر اسے بیان کیا جائے تو یہ ایک ”نیم ریاست“ تھی یعنی ایک ایسی ریاست جس نے اپنے ڈیزائن میں ہی بالآخر ختم ہو جانا اور سماج میں تحلیل ہو جانا تھا۔ جس سے سماج میں اجتماعی نظم و نسق منظم و مستحکم ہو جاتا جو کہ ہر ایک فرد کی بہتری کیلئے کام کرتا، وہ بھی بغیر کسی جبر اور دھونس کے۔ یہی اور صرف یہی مارکس کا مزدور ریاست کے حوالے سے حقیقی تصور ہے۔

### بورژوازی کا ابھار

ٹراٹسکی نے کہا تھا کہ انقلاب، تاریخ کی قوت محرکہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ اٹلی، ہالینڈ، برطانیہ اور پھر فرانس میں بورژوازی کے ابھار کے ساتھ ہی کلچر، آرٹ اور سائنس کو بھی غیر معمولی نشوونما میسر آئی۔ سترہویں اور اٹھارویں صدی میں رونما اور فٹ مند ہونے والے بورژوا انقلابات میں پیداواری قوتوں اور ٹیکنیک کے ساتھ ساتھ ہی سائنس اور فلسفے میں بھی برابر ترقی ہوتی رہی، جس کی بدولت کلیسا کے نظریاتی تسلط کا خاتمہ ہو گیا۔ ان کے مقابلے میں وہ ممالک جہاں جاگیرداری اور کلیسا کی رجعتی طاقتیں نئے سماج کی جڑوں میں پیوست اور چھٹی رہیں وہاں نئے سماج کو تنزلی، انحطاط اور گلے سڑنے کے طویل مدت کے بیزار کن عمل سے دوچار ہونا پڑا۔ اس حوالے سے سپین کو ایک نمایاں مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے ابتدائی ابھار کے دنوں میں، جب یہ نظام تاریخ میں ترقی پسند طاقت کی نمائندگی کر رہا تھا، تو بورژوازی کے ابتدائی نظریہ سازوں کو جاگیرداری کے نظریاتی عناصر کے ساتھ خوفناک جنگ لڑنی پڑی تھی۔ اس کا آغاز کیتھولک چرچ سے ہوا۔ جاگیری زمینداری کو اکھاڑ پھینکنے سے بہت پہلے بورژوازی کو اپنے سب سے باشعور اور انقلابی نمائندوں کے ذریعے، جاگیرداری کی نظریاتی دفاعی

سرحدوں کو توڑنا پڑا تھا۔ یعنی اس فلسفیانہ اور مذہبی فریم ورک کو جو کہ کلیسا کے گرد استوار ہو چکا تھا۔ سرمایہ دارانہ نظام کے ابھار کی ابتدا ہالینڈ اور شمالی اٹلی کے شہروں میں سے ہوئی۔ اس ابھار کے دوران نئے رویے سامنے آئے جس سے نئی اخلاقیات اور نئے مذہبی عقائد پنپتے اور پلتے چلے گئے۔ جاگیر دارانہ نظام کے تحت معاشی طاقت اپنا اظہار زمین کی ملکیت کی شکل میں کرتی تھی جبکہ کرنسی کا کردار بہت محدود ہوا کرتا تھا۔ لیکن تجارت، مینوفیکچرنگ کے ابھار اور ان کے ساتھ ہی قائم ہونے والے منڈی کے نوخیز تعلقات نے پیسے کو کہیں زیادہ طاقتور بنا دیا۔ فوگرز جیسے بڑے بیکار خاندان سامنے آئے جو بادشاہ کیلئے چیلنج بننے چلے گئے۔ سولہویں اور سترہویں صدی کی مذہبی جنگیں، ماسوائے گہرے طبقاتی تضاد کے خارجی اظہار کے اور کچھ نہیں تھیں۔ ان لڑائیوں کا واحد ممکنہ نتیجہ بورژوازی کے اقتدار و اختیار کا ابھار تھا جس سے نئے سرمایہ دارانہ پیداواری رشتے سامنے آتے چلے گئے۔ ان لڑائیوں کی قیادت کو ان کے نتائج کا پہلے سے کوئی ادراک نہیں تھا۔ 1640-60ء کا برطانوی انقلاب ایک بہت بڑی سماجی تبدیلی تھی۔ قدیم جاگیر دارانہ حکمرانی کو تباہ کر دیا گیا تھا اور ایک نئے سرمایہ دارانہ سماجی نظام نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ خانہ جنگی ایک طبقاتی لڑائی تھی جس نے چارلس اول کی آمریت اور اس کی پشت پر موجود رجعتی جاگیر دارانہ نظم و نسق کو ختم کر ڈالا۔ پارلیمنٹ، شہروں اور ملک بھر میں ابھرتی نئی ٹڈل کلاس کی نمائندگی کرتی تھی جس نے پرانی حکمرانی کو چیلنج کرتے ہوئے اسے شکست سے دوچار کیا۔ بادشاہ کا سر قلم اور دارالامرا کی عملداری کو ختم کر دیا گیا۔ معروضی حوالے سے اولیور کرامویل برطانیہ میں بورژوازی کے اقتدار کی بنیادیں قائم کر رہا تھا۔ لیکن ایسا کرنے کیلئے اور جاگیر دارانہ کلیسائی گندگی کو صاف کرنے سے پہلے اسے بزدل بورژوازی کو ایک طرف دھکیلنا پڑا، پارلیمنٹ کو تحلیل کرنا پڑا اور اپنی بنیادیں مشرقی انگلینڈ کے چھوٹے کاشتکاروں کی پیٹی بورژواپرٹ (جس سے وہ خود تعلق رکھتا تھا) سمیت ملک بھر کے کام کرنے والوں اور نیم پروتاریہ کے ساتھ استوار کرنی پڑیں۔ اپنے کو ایک انقلابی فوج کی سربراہ کے طور پر براجمان کرتے ہوئے کرامویل کو عوام کی لڑنے کی شہتی کو بروئے کار لانے کیلئے بائبل، پادریوں اور زمین پر خداوند کی سلطنت کے قیام کے نعرے کا سہارا لینا



پڑا۔ اس کی سپاہ نے کرایہ، منافع اور سود کے نعرے لگاتے ہوئے نہیں بلکہ مذہبی ترانے گاتے ہوئے لڑائی لڑی تھی۔ یہ مقدس روحانیت جلد ہی ایک انقلابی جوش و جذبے سے لیس ہوتی گئی، یہاں تک کہ کچھ موقعوں پر کمیونسٹ انداز بھی اختیار کرتی رہی۔ اسی چیز نے ہی عوام کو شاندار جرأت اور ولولے کے ساتھ "Hosts of Baal" کے خلاف لڑائی لڑنے پر تیار کیا۔ تاہم کرامویل اقتدار میں آجانے کے بعد تاریخ کے تشکیل کردہ تقاضوں اور اپنے وقت کی پیداواری قوتوں کی معروضی حدود سے باہر نہیں جاسکتا تھا۔ اسے لیفٹ ونگ کے خلاف ہونے پر مجبور ہونا پڑا، لیولرز (Levellers) کو جبراً دبا پڑ گیا اور ایک ایسی پالیسی اپنانی پڑی جس کے تحت بورژوازی کا ساتھ دیا گیا اور برطانیہ میں سرمایہ دارانہ ملکیت پر مبنی تعلقات کو از سر نو رائج کرنا پڑا۔ آخر میں کرامویل کو پارلیمنٹ تحلیل کرنی پڑی اور اپنی موت تک آمر بن کر حکمرانی کرتا رہا، جب برطانوی بورژوازی کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ انقلاب بہت دور، بہت آگے نکل گیا ہے اور یہ جائیداد کیلئے خطرہ بن سکتا ہے، اس نے اسٹیورٹ کو دوبارہ تخت پر بٹھادیا۔

فرانس کا 1789-93ء کا انقلاب معیاری طور پر برطانوی انقلاب سے کہیں بلند تھا۔ جیکوبز نے مذہب کی بجائے دلیل کو وسیلہ بنایا۔ انہوں نے آزادی، برابری اور یگانگت کے نعرے کے تحت لڑائی لڑی تاکہ کام کرنے والوں اور نیم پرولتاریہ کو جاگیردار اشرافیہ اور بادشاہت کے خلاف مزاحمت کیلئے تیار کیا جائے۔ باسٹیل کی ناقابل تخیر دیواروں کو ڈھانے کے بعد اس انقلاب نے نہ نظر آنے والی اور ناقابل تخیر محسوس ہونے والی کلیسا اور مذہب کی دیواروں کو بھی ڈھادیا۔ لیکن جونہی فرانس کی بورژوازی اقتدار سنبھال چکی تو وہ نوجوان نسل کے ذہنوں میں ڈالی گئی منطق پسندی اور دہریت کو بھول گئی۔ روبس پیری اقتدار کے خاتمے کے بعد جائیداد کے مالکان استحکام پکڑتے چلے گئے۔ استحکام کیلئے فارمولے کی تلاش اور ایک قدامت پسند نظریے کیلئے جو کہ ان کی مراعات کو جائز قرار دے سکے، بورژوازی نے جلد ہی مقدس کلیسا کو از سر نو سینے سے لگا لیا۔ کلیسا ویسے بھی حالات میں ڈھل جانے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتا ہے، یہ بے شمار سماجی تبدیلیوں کے باوجود خود کو دو ہزار سالوں سے قائم رکھے آ رہا ہے۔ کیتھولک کلیسا نے اپنے

نئے مالکوں اور محافظوں کو دل و جان سے خوش آمدید کہتے ہوئے بڑے سرمائے کو تقدس فراہم کرنا شروع کر دیا، ویسے ہی جیسے اس نے پہلے جاگیرداروں اور بادشاہوں کو کیا تھا اور اس سے پہلے سلطنتِ روم کو بھی، جو غلاموں کی مالک ہوا کرتی تھی۔

## مارکسزم کی بھونڈی تشریح

اپنی کلاسیکل کتاب ”تاریخ کیا ہے“ میں انگریز مورخ ای ایچ کار کہتا ہے کہ ”تاریخی حقائق ہمیشہ اپنے مرتب کرنے والے کے ذہن سے ہو کر سامنے آتے ہیں۔“ وہ مزید کہتا ہے کہ ”آپ کو حقائق کے مطالعے سے پہلے مورخ کا مطالعہ کرنا چاہئے۔“ اس سے اس کی مراد یہ ہے کہ تاریخ کے بیان کو کسی طور بھی لکھنے اور پڑھنے والے کے سیاسی (یا کسی اور) نکتہ نگاہ اور اس عہد جس میں وہ موجود ہوتے ہیں یا تھے، سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ تاریخ کو فاتحین نے مرتب کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں تاریخی واقعات کا انتخاب اور تشریح، ان تنازعات کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں جو مورخ کو متاثر کرتے ہیں جس سے وہ یہ ادراک متعین کرتا ہے کہ اس کا قاری کیا پڑھنا چاہے گا؟ بورژوازمورخین کی کسی مجوزہ معروضیت کے بارے میں تمام تر تعصبات کے باوجود تاریخ کا لکھا جانا، ناگزیر طور پر ایک طبقے کے نکتہ نگاہ کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ناممکن ہوتا ہے کہ بیان کردہ واقعات کے حوالے سے کسی جانبدار رائے سے بچا جائے۔ اس کے برعکس کوئی دعویٰ کرنا قارئین کو دھوکہ دینے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ مارکسٹ جب بھی سماج کو دیکھتے ہیں تو وہ کسی طور بھی غیر جانبدار ہونے کا نہ ارادہ کرتے ہیں نہ دعویٰ۔ وہ کھلے عام محنت کش طبقے کی جدوجہد اور سوشلزم کا پرچار کرتے ہیں۔ تاہم یہ ہمیں کسی طور سائنسی معروضیت سے منع نہیں کرتا۔ ایک حساس آپریشن کرتے وقت کوئی بھی سرجن بھرپور کوشش کرتا ہے کہ وہ مریض کو ہر حالت میں بچالے۔ وہ نتیجے کے حوالے سے ”غیر جانبداری“ سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ لیکن اس ایک وجہ کیلئے وہ اعضا کی مختلف پرتوں کے معاملے میں انتہائی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھے گا۔ اسی انداز میں ہی مارکسٹ سماجی عمل کے ٹھوس تجزیے کیلئے انتہائی سائنسی انداز اپنانے کی بھرپور کوشش کرے گا

تا کہ وہ کامیابی کے ساتھ نتیجے پر اثر انداز ہونے کے قابل ہو سکے۔ لیکن اس وقت یہاں ہم کسی طور ایک کے بعد سامنے آنے والے دوسرے حقائق پر مبنی سلسلہ واقعات کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ ہمارا مطمح نظر عمومی عمل کا جائزہ لینا ہے جو ان واقعات کے وقوع پذیر ہونے کا باعث بنا اور ان کی وضاحت کرتا ہے۔ اسی سے ہم تاریخ کے بہاؤ اور اس کی سمت کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی کہ کیسے یکے بعد دیگرے مختلف سماجی طبقات کی جدوجہدیں سماج کو اپنے مفادات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس بہاؤ میں سے باہم متصادم طبقات کیا نتائج حاصل کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر کوششیں کی گئی ہیں کہ مارکسزم کا، اس کے تاریخی تجزیے کے طریق کار کے حوالے سے مذاق اڑایا جائے۔ عام طور پر مارکس اور اینگلز کے بارے جو یہودگی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں نے ہر شے اور ہر بات کو محض معیشت تک محدود کیے رکھا ہے۔ اس نامعقولیت کا جواب مارکس اور اینگلز نے بارہا دیا۔ جیسا کہ اینگلز کے بلوخ کے نام خط سے واضح ہو جاتا ہے:

”تاریخ کے مادی تصور کے مطابق، تاریخ کا سب سے متعین عنصر زندگی کی پیدائش اور جنم ہے۔ اس سے زیادہ نہ مارکس نے اور نہ میں نے کبھی کچھ کہا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بار بار یہ کہتا ہے کہ صرف معیشت ہی واحد متعین عنصر ہوتا ہے تو اس کا بیان سوائے بے معنویت، تجرید اور نادانی کے کچھ نہیں۔“

تاریخی مادیت کا مطلق پن سے کوئی سروکار نہیں۔ مردوزن اندھی تاریخی قوتوں کی کٹھ پتلیاں نہیں ہوا کرتے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یکسر آزاد عامل بھی نہیں ہوتے کہ خود کو درپیش معاشی ترقی، سائنس اور ٹیکنیک کے مسلط کردہ معروضی حالات (کہ جو آخری تجزیے میں کسی بھی سماجی معاشی نظام کے مؤثر یا غیر مؤثر ہونے کا تعین کرتے ہیں) کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی قسمیں خود ہی تشکیل دیتے رہیں۔ اینگلز کے مطابق:

”انسان اپنی تاریخ خود ہی بناتے ہیں خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی برآمد ہو۔ اس دوران ہر فرد اپنی حتی شعوری خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ اس طرح بہت سی خواہشیں مختلف سمتوں اور جہتوں

میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور جن کے بدیہی اثرات خارجی دنیا پر مرتب ہوتے ہیں اور انہی تمام اثرات کے ملاپ کے نتیجے میں تاریخ مرتب ہوتی ہے۔“ (لڈوگ فیورباخ)

مارکس اور اینگلس نے کئی بار اس بات پر تنقید کی کہ کچھ لوگ مصنوعی انداز میں تاریخی مادیت کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ کونراڈ شٹٹ کو 5 اگست 1890ء کو لکھے گئے اپنے خط میں اینگلس نے کہا: ”عام طور پر لفظ ”مادیت“ کو جرمنی کے نوجوان لکھاری جیسے دل چاہے، اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ہر بات کو بغیر کسی وسیع مطالعے کے لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ محض لفظ سے چپک کے رہ جاتے ہیں اور پھر یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ لیکن اس سب سے ہٹ کے ہمارا تاریخ کا تصور، ہیگل کو ماننے والوں کی طرح تعمیر کرنے کا کوئی اوزار نہیں، بلکہ مطالعے کیلئے گائیڈ کا ہے۔ ساری تاریخ کو تروتازگی سے پڑھا جانا چاہیے۔ سماج کی مختلف شکلوں کے وجود کی شرائط کو انفرادی طور پر دیکھا جائے، اس سے پہلے کہ انہیں ان سے متعلق سیاسی، سماجی قانون، جمالیات، فلسفے، مذہب وغیرہ کے نکتہ نگاہ سے جانچا اور اخذ کیا جائے۔ اس بارے میں اب تک بہت ہی کم کام ہوا ہے کیونکہ بہت ہی کم لوگوں نے اس پر سنجیدگی سے توجہ دی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں بہت سی مدد مل سکتی ہے۔ جو کوئی بھی اس کیلئے سنجیدگی سے کام کرے گا وہ نہ صرف بہت کچھ حاصل کر سکے گا بلکہ وہ ممتاز بھی ٹھہرے گا۔ لیکن ایسا کرنے کی بجائے جرمن نوجوانوں کی بڑی تعداد تاریخی مادیت کو محض اپنے محدود تاریخی علم میں جملے بازی کیلئے استعمال کرتی ہے (ویسے تو کسی بھی چیز کو جملوں تک محدود کیا جاسکتا ہے)۔۔۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تو معاشیات کی تاریخ نوخیز ہے اور اسے بہت جلد ایک شفاف نظام کے طور پر تعمیر کر دیا گیا ہے، اس کے بعد یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد ہاتھ جیسے مورخ بیچ میں آتے ہیں اور جس عمل کو سطحی جملوں تک محدود کر دیا گیا ہے اس پر حملے کر کے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔“ (مارکس اینگلس، مجموعی تصانیف، جلد نمبر 49، صفحہ 8)

کونراڈ شٹٹ کو ہی اپنے 27 اکتوبر 1890ء کے خط میں اینگلس لکھتا ہے:

”ان صاحبان کے ساتھ جو سب سے بڑی دشواری ہے، وہ جدیدیات سے ان کا نابلد ہونا ہے۔ انہیں کچھ بھی بھائی نہیں دیتا، ان کو یہاں وہ نظر آتی ہے اور وہاں نتیجہ۔ یہ محض ایک خالی تجربہ ہے، اس قسم کا مابعد الطبیعیاتی تضاد حقیقی دنیا میں اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ جب بحر ان عروج پر ہوں، جب سارا وسیع عمل، باہمی تعامل کی صورت میں کام کر رہا ہوتا ہے (اگرچہ یہ مختلف نابرابر قوتوں پر مبنی ہوتا ہے، معاشی تحریک بہت دور ہوتی ہے لیکن جو مضبوط ترین، سب سے بنیادی اور سب سے زیادہ فیصلہ کن ہوتی ہے)، یہاں ہر شے اضافی ہے اور کچھ بھی مطلق نہیں ہے۔۔۔ ایسا دیکھنا انہوں نے شروع ہی نہیں کیا ہے۔ لگتا ہے کہ ہیگل ان کیلئے وجود ہی نہیں رکھتا۔“ (مارکس اینگلز، مجموعی تصانیف، جلد نمبر 49 صفحہ 59)

مارکسزم نظریات کے سوال سے انکار نہیں کرتا لیکن وہ یہ دیکھتا اور جانچتا ہے کہ یہ کیسے سامنے آتے اور ابھرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ فرد کے کردار سے بھی انکار نہیں کرتا اور بالکل ایسے ہی اتفاقات سے بھی۔ تاہم مارکسزم ان سب کو ان کے درست سیاق و سباق میں دیکھتا ہے۔ کار کا ایک حادثہ یا کوئی ایک گولی بھی بلاشبہ تاریخ کے دھارے کو موڑ سکتی ہے لیکن انہیں کسی طور بھی قوت محرکہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ہیگل نے کہا تھا کہ ضرورت اپنا اظہار حادثے (اتفاق) کی صورت میں کرتی ہے۔ پہلی عالمی جنگ کا باعث بننے والی سرانیو (موجودہ بوسنیا کا دار الحکومت) میں آرک ڈیوک فرڈینینڈ کی جان لینے والی گولی ایک تاریخی حادثہ تھی جو کہ بڑی طاقتوں کے درمیان دشمنی کا عمل انگیز ثابت ہوئی، لیکن یہ دشمنی 1914ء سے پہلے ہی بڑی یورپی طاقتوں کے مابین ناقابل حل معاشی، سیاسی اور عسکری تضادات کی صورت میں پنپ رہی تھی۔

## مارکسی فلسفہ

یہاں ہمارے سامنے بنیادی سوال آتا ہے کہ مارکسی فلسفہ کیا ہے! مارکس اور اینگلز کی تحریروں میں ہمیں کوئی فلسفیانہ نظام نہیں ملتا جیسا کہ ہیگل کے ہاں ہے۔ تاہم ہمیں ان میں اعلیٰ پیمانے کی بصیرت اور اشارے ضرور میسر آتے ہیں کہ جنہیں اگر باقاعدہ مرتب کیا جاتا تو یہ سائنسی

طریق کار کے خزانے میں بیش بہا اضافہ ہوتا۔ بد قسمتی سے ایسا کوئی کام سنجیدگی سے نہیں کیا گیا۔ جو کوئی بھی جدلیاتی مادیت کو گہرائی میں اور تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہے، اسے بہت مشکل پیش آتی ہے۔ موضوع کی حد درجہ اہمیت کے باوجود، مارکس اور اینگلس کی کوئی ایک کتاب بھی نہیں ہے جو اس سوال کو جامع انداز میں بیان کرتی ہو۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ مارکس کی سبھی تحریروں میں جدلیاتی طریق کار بالکل واضح صورت میں موجود ہے۔ شاید ہی کسی مخصوص شعبے میں جدلیات کے اطلاق کی اس سے بہتر اور کوئی مثال موجود ہو۔ یہاں ہم سیاسی معاشیات کا بطور خاص ذکر کریں گے جو کہ ”سرمایہ“ کی تین جلدوں پر مشتمل ہے۔ ایک لمبا عرصہ مارکس نے بھرپور کوشش بھی کی تھی کہ جدلیاتی مادیت پر کتاب لکھے لیکن وہ ”سرمایہ“ پر کام کی وجہ سے ایسا نہیں کر پایا۔ اس بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری کے علاوہ مارکس نے لاتعداد سیاسی تحریریں بھی لکھیں، ساتھ ہی وہ مزدور تحریک میں بھی سرگرم رہا، خاص طور پر انٹرنیشنل ورکنگ مین ایسوسی ایشن (پہلی انٹرنیشنل) کی تعمیر و تشکیل میں گرجوشی سے شریک رہا۔ ان سرگرمیوں اور ذمہ داریوں نے اس کی زندگی کا ہر لمحہ کھپائے رکھا۔ اس کے بدترین معاشی حالات، ناموزوں خوراک اور بیماری کی وجہ سے اس کی صحت گہڑ چکی تھی۔ مارکس کی وفات کے بعد اینگلس نے فلسفے پر لکھنے کی منصوبہ بندی کی، یہ کام اس کا عزیز دوست نہ کر سکا تھا۔ اینگلس نے ہمارے لئے مارکسی فلسفے کے حوالے سے کئی نادر و نایاب تحریریں چھوڑی ہیں جن میں لڈوگ فیورباخ اور کلاسیکل جرمن فلسفے کا اختتام، انٹی ڈیوہرنگ اور فطرت کی جدلیات شامل ہیں۔ لیکن بد قسمتی سے اینگلس بھی کئی ایک وجوہات کی بنا پر مارکسی فلسفے پر کوئی حتمی کتاب نہیں لکھ پایا۔ پہلے تو اسے جرمنی کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر ایک موقع پرست رجحان کے ابھارنے مجبور کیا کہ وہ اپنے سائنسی تحقیق کے کام کو ایک طرف رکھتے ہوئے موقع پرستی کے خلاف ایک مدلل مضمون لکھ سکے، جو کہ اب مارکسزم کے اہم ترین کلاسیکی کاموں میں سے ایک ہے۔ یہ مشہور زمانہ کتاب انٹی ڈیوہرنگ ہے جو باقی امور کے علاوہ مارکسی فلسفے کا ابتدائی اہم کام ہے۔ بعد ازاں اینگلس دوبارہ اپنے مطالعے کی طرف راغب ہوا تا کہ فلسفے پر ایک جامع کتاب کی تیاری کر سکے۔ لیکن مارچ 1883ء میں مارکس کی وفات کے بعد ایک بار پھر

اینگلز کو ”سرمایہ“ کی دوسری اور تیسری جلدوں کے بکھرے ہوئے  
مشکل کام کو دیکھنا اور اسے ترتیب دینا پڑ گیا۔ جسے مارکس مکمل نہیں کر پایا تھا۔  
مارکس اور ہیگل

جدلیاتی فلسفے کو جرمن خیال پرست جارج ہیگل کے فلسفے کی صورت میں بلند ترین عروج حاصل ہوا۔ ہیگل کا سب سے بڑا کارنامہ جدلیات کی دریافت تھی جو کہ دراصل یونانیوں کی ایجاد تھی۔ ہیگل نے اسے نئی بلندیاں فراہم کیں۔ لیکن اس نے یہ سب خیال پرستانہ طریقے سے کیا۔ اینگلز کے الفاظ میں یہ تاریخ کا سب سے بڑا اسقاطِ حمل تھا۔ ہیگل کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کو ایک حقیقی عظیم تصور کا ادراک ہوتا ہے جو کہ ایک خیال پرستانہ تصوف کی جگڑ بند یوں سے آزاد ہونے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ یہاں ہمیں غیر معمولی کامل تصورات کی ایک دنیا ملتی ہے، بصیرت کا ایک حیرت کدہ ہے لیکن یہ سب ایک خیال پرستانہ پراگندگی کے نیچے دبا ہوا ہے۔ ہیگل کا مطالعہ حواس کو بوکھلا دینے والا تجربہ ہے۔ بار بار یہ عظیم مفکر، چکرادینے کی حد تک، مادیت پرستانہ پوزیشن کے انتہائی قریب بھی پہنچا لیکن عین آخر میں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، شاید کسی فساد کے خوف سے۔ اس وجہ سے ہیکیلیں فلسفہ نامطمئن، تضادات سے بھرپور، مضحل اور نامکمل رہا۔ یہ کام مارکس اور اینگلز نے اپنے سر لیا کہ ہیگل کے فلسفے کے نکات کے بیچ موجود ادھور پن اور پوچھیدگیوں کو دور کرتے ہوئے اس کے فلسفے کو اس کے منطقی انجام تک لے جائیں۔ ایسا کرتے ہوئے نہ صرف اس کی مکمل نفی کرتے جائیں بلکہ اسے معیاری برتری میں بدل دیں۔

ہیگل روایتی فلسفے کو حتمی دور تک لے جاسکتا تھا، لے گیا۔ ایسا کرتے ہوئے ہیگل کو فلسفے کی مروجہ حدود و قیود سے بہت باہر جانا پڑ گیا۔ اس عمل میں فلسفے کی نفی کرنی پڑی۔ فلسفے کو ابہام اور اندیشوں کی دنیا سے مادی اشیاء کی حقیقی دنیا، زندہ مردوزن کی دنیا، حقیقی تاریخ اور اس جدوجہد کی طرف واپس آنا تھا، جس سے یہ بہت وقت پہلے سے کٹا ہوا تھا۔ فیورباخ اور موس ہس جیسے بائیں بازو کے دوسرے ہیکیلیں مفکروں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے کلیتاً ہیگل کو ”نہ“ کر دی اور اس کے فلسفے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اس کی نفی کر دی۔ اس وقت پروشیا کی ریاست کے جبر اور

یورپ میں اس وقت حاوی عمومی رجحانیت کی موجودگی میں، بس کا مادیت پرستی کی طرف بڑھنا ایک دلیرانہ قدم تھا۔ اس کیلئے واقعتاً جرأت درکار تھی جس نے اس وقت نوجوان مارکس اور اینگلس کو بہت متاثر کیا۔ لیکن آخر کار اسے بھی ناکامی ہوئی۔ کوئی بھی گندم کے دانے کو مسل کے اس کی نفی کر سکتا ہے۔ لیکن جدلیاتی نفی کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ کسی شے کو تباہ کر دیا جائے۔ یہ نظریہ اسے مٹاتا تو ہے لیکن اسی دوران یہ ہر اس شے کو محفوظ بھی رکھتا ہے جو محفوظ رکھنے کی مستحق ہوتی ہے۔ اگر گندم کے دانے کو مٹی میں دبا دیا جائے تو یہ بھی دانے کی نفی ہو سکتی ہے۔ ہیگل نے نشاندہی کی تھی کہ ایک بچے کے منہ سے نکلنے والے وہ الفاظ جو کہ ایک جہاندیدہ بوڑھے کے منہ سے بھی نکلتے ہوں، برابر کے وزن کے حامل نہیں ہو سکتے کیونکہ بوڑھے نے زندگی گزارنی ہوتی ہے اور وہ بڑے تجربات سے مالا مال بھی ہوتا ہے۔ یہی معاملہ فلسفے کے ساتھ ہے۔ اپنے ابتدائی مقام کی طرف پلٹنے سے پہلے فلسفے کو طے شدہ دور دراز کے مراحل کا اعادہ نہیں کرنا پڑتا۔ اپنی بزرگی سے اپنی طفولیت کی جانب جاتے ہوئے اسے بچہ نہیں بننا پڑتا بلکہ اسے دو ہزار سالہ تاریخ اور سائنس و ٹیکنیک کی ترقی کے دامن میں سے ہوتے ہوئے عظیم یونانیوں کے قدیم نظریات تک جانا پڑتا ہے۔ یہ کسی طور کسی بڑے پیسے کی مکینیکل حرکت جیسا عمل نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ بیٹے ہوئے مراحل کی بیہودہ تکرار ہوتی ہے، جیسا کہ نہ ختم ہونے والے جنم کا عمل جو کہ مشرقی مذاہب میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ نفی کی نفی ہوتی ہے جو اپنا اثبات ترقی کی ایک اور ابتدائی شکل میں کرتی ہے لیکن ایک بلند پیمانے کی مہارت کے ساتھ۔ یہ ایک سی ہو کر بھی ایک سی نہیں ہوتی۔

تاہم، اگرچہ کچھ گہرے اور اہم نتائج تک پہنچنے اور مادیت پرستی کے قریب تر ہونے کے باوجود (مثال کے طور پر اپنی کتاب ”فلسفے کی تاریخ“ میں) ہیگل اپنے خیال پر ستانہ نکتہ نگاہ کی قید سے آزاد نہیں ہو سکا۔ اس نے اپنے جدلیاتی طریقے کو کبھی بھی فطرت اور سماج کی حقیقی دنیا کے ساتھ درست طور پر جوڑنے کا تردد ہی نہیں کیا کیونکہ اس کے نزدیک حقیقی ترقی صرف تصورات کی دنیا کی ترقی ہی تھی۔



## مارکس کا فلسفیانہ انقلاب

مارکس کی سبھی تھیوریوں میں سے سب سے زیادہ جس تھیوری کو تنقید، تضحیک اور تذلیل کا سامنا کرنا پڑا وہ جدلیاتی مادیت ہے۔ یہ کوئی اتفاق بھی نہیں ہے کیونکہ یہی مارکسزم کی اصل اساس ہے۔ یہ کم و بیش سائنسی سوشلزم کا طریق کار ہے۔ مارکسزم صرف ایک سیاسی پروگرام اور ایک معاشی نظریے کا ہی نام نہیں بلکہ بہت کچھ ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو اپنی وسعت میں صرف سیاست اور طبقاتی جدوجہد کا ہی نہیں بلکہ ساری انسانی تاریخ، معیشت، سماج، افکار اور فطرت کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ آج بورژوازی کا نظریہ انتشار کی زد میں ہے، نہ صرف معیشت اور سیاست میں بلکہ فلسفے کے میدان میں بھی۔ اپنے شباب کے دنوں میں بورژوازی، ہیگل اور کانت جیسے عظیم مفکر پیدا کر رہی تھی۔ اب اپنے شدید زوال کی کیفیت میں کچھ بھی ڈھنگ کا پیدا نہیں کر رہی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹیوں کے فلسفے کے شعبوں کی بانجھ تحریریں پڑھیں اور آپ کے اندر بیک وقت چڑچڑاہٹ اور پشیمردگی نہ پیدا ہو جائے۔

حکمران طبقات کے خلاف لڑائی صرف کارخانوں، سڑکوں، پارلیمنٹوں یا لوکل کونسلوں تک محدود نہیں ہوتی بلکہ ہمیں اسے نظریات کے میدان میں بھی لڑنا ہوتا ہے، جہاں بورژوازی کے تباہ کن مضراثرات کسی اور شعبے سے کم نہیں ہوتے اور جو مکروہ غیر جانبداری اور مصنوعی معروضیت کے پردوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ مارکسزم کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ پرانے اور فرسودہ ہو چکے منصبوں کا متبادل پیش کرے۔ اپنی جوانی میں ہی مارکس، ہیگل کے فلسفے سے شدید متاثر ہوا تھا جس نے اس وقت جرمنی کی یونیورسٹیوں کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ ہیگل کا سارا اکتے نگاہ اس بات پر مرکوز تھا کہ صرف تبدیلی کو ثبات حاصل ہے اور ترقی تضادات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے یہ فلسفے میں ایک حقیقی انقلاب کا پیش خیمہ تھا۔ اس متحرک انقلابی صفت نے نوجوان مارکس کو متاثر کیا اور یہی آگے چل کر اس کے نظریات کی شروعات کا سبب بھی بنی۔

مارکس اور اینگلس دونوں نے ہیگل کی نفی کی اور اس کے تصورات کے نظام کو اس کے الٹ میں بدل ڈالا۔ لیکن ایسا کرتے ہوئے دونوں نے تو اترا وتردد کے ساتھ ہیگل کے فلسفے کے قابل

قد رخصوں کو محفوظ رکھا۔ وہ خود کو ہیگل کے فلسفے کا ”مدلل نگہبان“ بناتے ہوئے ان تصورات کو بہت بلند سطح پر لے گئے اور انہیں ترقی دیتے ہوئے حقیقی مواد سے آشکار کیا جو کہ ان کے اندر پہلے سے موجود تھا۔ ہیگل میں تاریخی قوتوں کی حقیقی جدوجہد اپنا اظہار تصورات کی جدوجہد کی مبہم شکل میں کرتی ہے۔ لیکن جیسا کہ مارکس کہتا ہے کہ نظریات اپنے اندر کوئی تاریخ نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کا حقیقی وجود ہوتا ہے۔ چنانچہ ہیگل کے یہاں حقیقت، ایک تصوفانہ و بیگانہ صورت میں ملتی ہے۔ فورباغ کے معاملے میں بھی معاملات کچھ بہتر نہیں کیونکہ اس کے ہاں بھی انسان ایک یکطرفہ خیال پرستانہ اور غیر حقیقی کیفیت میں موجود ہے۔ صرف مارکس فلسفے کی دنیا میں ہی مردوزن حقیقی اور تاریخی طور پر ظہور پذیر ہوتے ہیں۔

مارکس کے فلسفے سے کم از کم یہ تو ہوا کہ فلسفہ بالآخر اپنی جڑوں پر استوار ہو گیا۔ یعنی جدلیات اور مادیت، دونوں سے۔ یہاں نظریہ اور عمل ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے اور خوشی مناتے ملتے ہیں اور فلسفہ ایک تاریک اور بے آواز مطالعے سے باہر نکل کر دھوپ اور ہوا سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا ناقابل تمنتیخ جزو بن جاتا ہے۔ کسی وجود کے بغیر نظریات کے مبہم تنازعے کی جگہ ہمیں مادی دنیا اور سماج کے حقیقی تضادات سے واسطہ پڑتا ہے۔ حقیقت سے بالاتر دھندلے خیالات کے مابین تضاد کی بجائے ہمیں زندہ مردوزن سے پالا پڑتا ہے جو حقیقی سماج میں جی رہے ہیں، حقیقی تاریخ مرتب کر رہے ہیں اور حقیقی لڑائیاں بھی لڑ رہے ہیں۔

ہیگل کے یہاں جدلیات ایک سحر انگیزی اور نیم صوفیانہ انداز میں کارفرما ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ یہ ”سر کے بل کھڑی ہے۔“ ہمیں یہاں سماج اور فطرت میں کارفرما حقیقی عوامل نہیں ملتے بلکہ اس کی بجائے یہاں ہمیں کچھ انسانوں، خاص طور پر فلسفیوں، کے دماغوں میں تیرتے تصورات کے جھلملاتے عکس نظر آتے ہیں۔ اینگلز کے الفاظ میں جدلیات ہیگل کے ہاتھوں اس کے نابذہ ہونے کے باوجود بھی ایک بڑے اسقاط کا شکار ہو گئی۔ ہیگل کی جدلیات کو مارکس نے آکر بچایا۔ اینگلز کے مطابق صرف مارکس ہی تھا جس نے ہیگل کی منطق میں بند تصوف کو نکال باہر کیا اور اس میں موجود جدلیات کے جوہر کو سامنے

لے آیا۔ اس شعبے میں یہ مارکس کی حقیقی دریافت تھی۔

مارکس نے جدلیاتی طریق کار کو از سر نو تعمیر کرتے ہوئے تصورات کو درست طور پر ترقی دی، جبکہ ہیگل کا فلسفہ اشیا کی وضاحت دماغ یا پھر آفاقی روح کے نکتہ نگاہ (یعنی خیال پرستانہ طریقے) سے کرتا ہے۔ مارکس نے یہ دکھایا کہ انسانوں کے ذہنوں میں تصورات کی ترقی، سماج اور فطرت میں وقوع پذیر ہوتی ترقی ہی کی عکاس ہوتی ہے۔ جیسا کہ مارکس کہتا ہے ”ہیگل کی جدلیات، ہر نوع کی جدلیات کی بنیاد ہے، لیکن صرف اسے اس کی تصوفانہ ہیئت سے نکالنا ہی میرے طریق کار کو منفرد اور ممتاز بناتا ہے۔“ (کوگل مین کے نام خط، 6 مارچ 1868ء؛ مجموعی تصانیف؛ جلد 15؛ صفحہ 543)

### جدلیات کیا ہے؟

ٹراٹسکی نے اپنے مختصر مگر شاندار مضمون ”جدلیاتی مادیت کی ابجد“ میں جدلیات کی تعریف کچھ یوں بیان کی ہے:

”جدلیات نہ تو کوئی افسانہ نگاری ہے نہ تصوف، بلکہ یہ ہمارے سوچنے کے طریقوں کی سائنس ہے اور یہ روزمرہ زندگی کے مسائل تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ یہ کوشش کرتی ہے کہ دور دراز کے اور پیچیدہ تر معاملات کا ادراک بھی کر لیا جائے۔ جدلیات اور رسمی منطق کا آپس میں وہی تعلق ہے جو سادہ ریاضی اور پیچیدہ ریاضی کے مابین ہوتا ہے۔“

جدلیاتی طریق کار نے مادیت کے ساتھ مل کر ایک انتہائی موثر اور طاقتور تجزیاتی اوزار تخلیق کیا ہے۔ لیکن یہ جدلیات ہے کیا؟ یہاں موقع نہیں کہ ہیگل کی تشکیل کردہ اور مارکس کی تکمیل کردہ جدلیات کے سبھی قوانین کو بیان کیا جائے۔ میں (راقم الحروف) نے اس پر اپنی کتاب ”مارکسی فلسفہ اور جدید سائنس“ میں حدود درجہ سیر حاصل بحث کی ہے۔ البتہ یہاں میں اسے چند فقروں میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اپنی کتاب ”انٹی ڈیوہرگ“ میں اینگلز نے اسے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ”جدلیات، سادہ طور پر انسانی سماج، فطرت، تصورات کی ترقی اور حرکت کے عمومی قوانین کی سائنس ہے۔“ اپنی کتاب ”فطرت کی جدلیات“ میں اینگلز نے جدلیات کے بنیادی قوانین

کا خاکہ اس طرح پیش کیا ہے:

- 1- مقدار کی معیار میں تبدیلی کا قانون۔
- 2- ضدین کے مابین جدل اور اتحاد کا قانون اور اپنی انتہاؤں پر پہنچ کر ان کا تبدیل ہو جانا۔
- 3- تضادات کے ذریعے ترقی کا قانون یعنی نفی کی نفی۔

اپنی نامکمل اور تشنہ طلب حالت کے باوجود اینگلز کی کتاب ”فطرت کی جدلیات“ مارکسزم کے طالب علموں کیلئے ”انٹی ڈیوہرنگ“ کی طرح بہت اہم ہے۔ بلاشبہ اینگلز کو اپنے زمانے کی سائنسی ایجادات اور علم سے ہی استفادہ کرنا تھا، تاہم یقینی طور پر اینگلز کے مواد کی تاریخی اہمیت مسلم ہے۔ لیکن ”فطرت کی جدلیات“ کے حوالے سے جو بات حیران کن ہے، وہ یہ تفصیل یا وہ حقائق نہیں جنہیں سائنس کی پیش قدمی پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ اس کے برعکس زیادہ حیران کن بات اینگلز کی وہ جدید نظریاتی پوزیشنیں ہیں جن میں سے اکثر اس کے اپنے ہی عہد کی سائنسی تھیوریوں سے متصادم تھیں، لیکن جنہیں آج کی جدید سائنس نے اپنا لیا ہے۔ اپنی پوری کتاب میں اینگلز نے اپنے اس نظریے پر زور دیا ہے کہ مادہ اور حرکت (جسے اب ہم توانائی کہتے ہیں) ناقابل علیحدگی ہیں۔ حرکت، مادے کے وجود کی طرز (Mode) ہوتی ہے۔ مادے کا حرکتی تصور ایک ایسی حتمی سچائی ہے، جسے یونان کے ابتدائی فلسفیوں کی جانب سے کم و بیش سمجھ لیا گیا تھا یا جس کا اندازہ لگایا جا چکا تھا۔ مثلاً ہراکلیطس کہتا ہے کہ ”ہر شے ہے بھی اور نہیں بھی، کیونکہ ہر شے بہاؤ میں ہے۔“ ہر شے مستقلاً تبدیل ہو رہی ہے، وجود پار ہی ہے اور گزرتی جا رہی ہے۔

عام عقل کے مطابق کسی شے کی کیمت مستقل رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھومتے ہوئے لٹو کی کیمت اتنی ہی رہتی ہے جتنی اس کی بغیر حرکت کی حالت میں ہوتی ہے۔ چنانچہ اسے رفتار سے الگ تھلگ ”ثابت“ سمجھا جاتا رہا۔ بعد ازاں یہ دریافت ہو گیا کہ یہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کیمت بڑھ جاتی ہے لیکن یہ اضافہ اسی حالت میں ہی معلوم پڑتا ہے کہ جب حرکت روشنی کی رفتار جتنی ہو۔ روزمرہ کے عملی مقاصد کیلئے ہم یہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ کیمت مستقل رہتی ہے قطع نظر کہ اس کی حرکت کی رفتار کیا ہے۔ تاہم رفتار کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بیان غلط ہوتا جائے گا۔ اس

قانون کے بارے میں پروفیسر فین مین کا کہنا ہے:

”۔۔۔ فلسفیانہ طور پر ہم اس عام قانون بارے بالکل غلطی پر ہیں۔ دنیا بارے ہماری پوری تصویر بدل کے رہ جاتی ہے جب کیمت میں ایک معمولی سی تبدیلی بھی واقع ہوتی ہے۔ قوانین کے پیچھے فلسفے یا تصورات کے حوالے سے یہ بات بہت ہی شاذ و نادر ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک بہت ہی چھوٹا سا اثر بھی بعض اوقات ہمارے تصورات میں مکمل تبدیلی کا متقاضی ہو جاتا ہے۔“

(پروفیسر رچرڈ فین مین، طبیعیات پر لیکچرز)

یہ واضح مثال ابتدائی مکینکس اور ایڈوانس ماڈرن فزکس میں بنیادی فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح ابتدائی ریاضی میں، جو کہ روزمرہ کے سادہ حساب کتاب میں استعمال ہوتا ہے، اور اعلیٰ درجے کے ریاضی میں بہت فرق ہے جس کا ذکر اینگلز نے ”انٹی ڈیوہرنگ“ اور ”فطرت کی جدلیات“ میں کیا ہے۔ ایسا ہی فرق رسمی منطق اور جدلیات میں بھی ہوتا ہے۔ روزمرہ زندگی کے لئے رسمی منطق کافی ہے۔ تاہم بہت ہی پیچیدہ کیفیات میں یہ قوانین الٹ پلٹ اور اوپر نیچے بھی ہوتے رہتے ہیں اور یوں ان کی محدود سچائی غلط ہو جاتی ہے۔

### مقدار اور معیار

جدلیاتی مادیت کے نکتہ نگاہ سے مادی دنیا کا نہ تو کوئی شروع ہے نہ ہی کوئی انت، لیکن یہ مادے (یا توانائی) کے ایک ایسے بڑے حجم پر مشتمل ہے جو مسلسل حرکت کی حالت میں ہے۔ مارکسی فلسفے کا بنیادی تصور یہی ہے اور جس کی، پچھلے ایک سو سالوں سے جدید سائنس کی دریافتیں مسلسل تائید کرتی آرہی ہیں۔ روزمرہ کی زندگی سے کسی بظاہر مستحکم مظہر کی کوئی مثال لے لیجیے، ہم دیکھ سکیں گے کہ سطح کے نیچے کیسے تبدیلی واقع ہو رہی ہوتی ہے، اگرچہ یہ تبدیلی پہلی نظر میں نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ہم پانی کا ایک گلاس لیتے ہیں، ”ہماری آنکھیں، جی ہاں ہماری کٹھوراں آنکھیں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہی ہوتیں لیکن اگر ہماری نظر ایک ارب گنا تیز ہو جائے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اپنے نکتہ نگاہ سے مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ مالکیول ہر لمحہ اپنی جگہ تبدیل کر رہے ہیں، سطح کو چھوڑ رہے ہیں اور پھر واپس آ رہے ہیں۔“ (پروفیسر رچرڈ فین مین، طبیعیات پر لیکچرز؛

## باب 1 صفحہ 18)

یہ الفاظ اینگلز کے نہیں بلکہ ایک معروف سائنسدان کے ہیں جو کیمیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں نظر پاتی فزکس پڑھاتا رہا ہے۔ یہی مصنف، اینگلز کی مشہور مثال مقدار کی معیار میں تبدیلی کو دہراتا ہے۔ پانی، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایٹموں کی مسلسل حرکت سے مل کر بنتا ہے۔ پانی اپنے مالکیولوں کے اس باہمی تعامل کے دوران ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اسے 100 درجہ سنٹی گریڈ پر نارمل ماحولیاتی دباؤ میں رکھا جائے تو یہ ایک ایسے خاص مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں مالکیولوں کی ایک دوسرے کو کھینچتی قوتیں مضحل ہو جاتی ہیں اور وہ اچانک الگ ہو کے اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مثال بظاہر عام سی معلوم پڑتی ہے لیکن سائنس اور صنعت کے شعبوں میں انتہائی دور رس اثرات کی حامل ہے۔ یہ جدید فزکس کے ایک بہت ہی اہم شعبے 'عبوری مراحل کے مطالعے' کا ایک جزو ہے۔ مادہ چار مرحلوں یا حالتوں میں ہوتا ہے: ٹھوس، مائع، گیس اور پلازما۔ اسی طرح کچھ اور انتہائی حالتیں بھی ہوتی ہیں جن میں Critical Fluids اور Degenerate Gas شامل ہیں۔

عام طور پر جب ایک ٹھوس کو حرارت دی جاتی ہے (یا جب دباؤ کم ہوتا ہے) تو یہ ایک محلول کی حالت میں بدل جاتا ہے اور پھر گیس بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر برف حرارت ملنے پر پانی بن جاتی ہے اور جب پانی کو گرم کیا جاتا ہے تو یہ بھاپ بن جاتا ہے۔ لیکن پھر اگر اس بھاپ کو ایک انتہائی بلند درجہ حرارت سے گزارا جائے تو مرحلے کی ایک نئی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ 12,000 کیلون یا 11,726.85 سیلسیوس درجہ حرارت پر بھاپ پلازما بن جاتا ہے۔ اسی کو مارکسزم مقدار کی معیار میں تبدیلی قرار دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ معمولی تبدیلیوں کی ایک بڑی تعداد بالآخر ایک معیاری جست پیدا کرتی ہے یعنی حالت کی تبدیلی۔ اس کیلئے کئی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ اگر کوئی کسی مادے، مثلاً سیسے یا نیویمیم کو ایک مخصوص درجہ حرارت تک ٹھنڈا کرے تو اس کی الیکٹریکل مزاحمت کم ہوتی چلی جائے گی، 273- سنٹی گریڈ سے کچھ زیادہ کے درجہ حرارت پر پہنچنے کے بعد مزاحمت اچانک غائب ہو جائے گی۔ یہاں ایک "کوٹم جست" جیسی کیفیت

سامنے آتی ہے، ایک معمولی مزاحمت سے عدم مزاحمت کی طرف عبور۔ کوئی بھی شخص سبھی فطری سائنسوں میں اس کی بے شمار مثالیں ڈھونڈ سکتا ہے۔ امریکی سائنسدان مارک بوچانن نے "Ubiquity" کے نام سے ایک انتہائی دلچسپ کتاب لکھی ہے جس میں اس نے ان گنت مثالیں پیش کی ہیں جیسے دل کے دورے، جنگلوں میں لگنے والی آگ، تباہیاں، جانوروں کی آبادی میں اضافہ اور کمی، شاک ایکنیچینوں کے بحران، یہاں تک کہ فیشن اور مختلف شعبہ ہائے فنون میں ہونے والی تبدیلیاں (میں ان میں انقلابات کا اضافہ کرنا چاہوں گا)۔۔۔ ان سب چیزوں کا بظاہر آپس میں کوئی تال میل نظر نہیں آتا۔ اس کے باوجود یہ ایک ہی قانون سے منسلک ہیں جس کو ریاضی کی ایک مساوات سے بیان کیا جاسکتا ہے، جسے طاقت کا قانون (Power Law) کہا جاتا ہے۔ مارکسی اصطلاح میں اسے مقدار کی معیار میں تبدیلی کا قانون کہتے ہیں اور یہ سارا مطالعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ قانون ہر جگہ موجود ہے۔ یعنی یہ کائنات میں ہر سطح پر موجود ہے چنانچہ یہ اینگلز کے بقول ایک حقیقی عالمگیر قانون ہے۔

### جدلیات بمقابلہ تجربیت (Empiricism)

”ہمیں حقائق دیے جائیں!“ کسی شاہی فرمان جیسا یہ مطالبہ حقیقی عملیت پسندوں کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے۔ بھلا اور کیا حقائق ان کے سامنے لا کے رکھے جائیں! جو بھی کچھ حقیقت کی دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، جلد ہی اپنے الٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک وقت میں جو حقائق مستند ہوتے ہیں وہ کسی وقت بھی پہلے سے بہت مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہر شے مستقل تبدیلی کی حالت میں ہے اور جلد یا بدیر ہر شے اپنے الٹ میں بدل جاتی ہے۔ جو ٹھوس نظر آرہی ہوتی ہے وہ ہوا ہو جاتی ہے۔

جدلیاتی طریقہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم ظاہر سے آگے اور سطح کے نیچے موجود بھی دیکھ سکیں۔ یہ عوامل و مظاہر کا جامع اور متحرک نکتہ نگاہ پیش کرتا ہے۔ جدلیات ایشیا کا تجزیہ ان کے تعلقات میں کرتی ہے نہ کہ علیحدگی میں۔ انہیں ان کی حرکت میں دیکھتی ہے نہ کہ جمود میں۔ انہیں

ان کی زندگی میں دیکھتی ہے نہ کہ موت میں۔ جدلیات کے علم کا مطلب مستند حقائق اور ایشیا کی ظاہری حالت کی غلامی سے آزادی ہے، جو کہ مصنوعی تجربیت پسندی کی بنیادی خصوصیت ہوتی ہے۔ سیاست کے میدان میں یہ خاصیت اصلاح پسندوں کی ہوتی ہے جو کہ اپنی قدامت پسندی، تنگ نظری اور بزدلی کو عملیت پسندی اور ”حقائق پرستی“ جیسی فلسفیانہ اصطلاحات میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔

جدلیات ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم دی گئی حالت، فوری اور بظاہر نظر آنے والی دنیا سے باہر مداخلت کرنے کی کوشش کریں اور اس پوشیدہ عمل کو دریافت کریں جو کہ سطح کے نیچے کارفرما ہوتا ہے۔ ہم نشانہ ہی کرتے ہیں کہ خاموش ظاہریت اور حرکت کی غیر موجودگی کے پیچھے سالماتی تبدیلیوں کا ایک عمل موجود ہوتا ہے۔ نہ صرف فزکس میں بلکہ سماج میں اور عوام کی نفسیات میں بھی۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرنا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عروج اب ہمیشہ کیلئے ایک مستقل مظہر بن چکا ہے۔ یہی ایک لاجواب حقیقت تھی یا بظاہر ایسا ہی لگ رہا تھا۔ وہ لوگ جو اس ظاہری حقیقت بارے باتیں کرتے تھے انہیں سٹھپائے ہوئے احمق قرار دے دیا جاتا تھا۔ لیکن آج وہی لاجواب حقیقت ایک جھوٹ بن کے خاک میں مل چکی ہے۔ حقائق اپنے الٹ میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ وہ جو ایک ناقابل تردید سچ لگتا تھا اب ایک جھوٹ میں بدل چکا ہے۔ ہیگل کے الفاظ میں کہا جائے تو ”دلیل بے دلیلی بن چکی ہے۔“

اس طریق کار کو ایک صدی سے زیادہ عرصہ پہلے استعمال کرتے ہوئے اینگلز نے کئی شعبوں میں، اپنے بیشتر ہم عصر سائنسدانوں سے کہیں آگے دیکھنے کی کوشش کی اور آج کی جدید سائنس کے دریافت کردہ امور کی پیش بینی کی۔ اینگلز کسی طور پیشہ ور سائنسدان نہیں تھا لیکن وہ اپنے زمانے کی فطری سائنسوں کے حوالے سے وسیع علم رکھتا تھا۔ تاہم جدلیاتی تجزیے کے طریقے میں اپنی مہارت اور ادراک کی بدولت اینگلز نے آج کی سائنس کے حوالے سے کئی اہم فلسفیانہ تشریحات پیش کیں۔ اگرچہ آج بھی سائنسدانوں کی بڑی تعداد ان سے یکسر ناواقف ہے۔

بلاشبہ فلسفہ فطری سائنس کے قوانین پر حکم نہیں چلا سکتا۔ یہ قوانین، فطرت کے سنجیدہ اور



درست تجزیے کی بنیاد پر ہی نشوونما پاسکتے ہیں۔ سائنس کی ترقی تخمینوں، اندازوں کے ایک سلسلے سے اپنے خدوخال مرتب کرتی ہے۔ مشاہدے اور تجربے کے ذریعے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ پوری سچائی کو جان سکیں۔ مادے اور کائنات کے پوشیدہ اسرار و رموز میں گہری مداخلت کا یہ ایک نہ ختم ہونے والا عمل ہے۔ سائنسی نظریات کی سچائی کی پرکھ صرف عمل، مشاہدے اور تجربے سے ہوتی ہے، نہ کہ فلسفیوں کے کسی حکمنامے سے۔

ماضی میں فلسفیوں کی جانب سے جو بیشتر سوالات اٹھائے جاتے رہے، انہیں سائنس نے حل کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ سمجھ لینا بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوگی کہ فلسفہ سائنس میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ فلسفے کے دو پہلو ایسے ہیں جو آج تک مستند ہیں اور جنہیں آج تک کی سائنس ہضم یا ہڑپ نہیں کر سکی ہے۔ وہ ہیں رسمی منطق اور جدلیات۔ اینگلز کا اصرار تھا کہ سائنس کیلئے ”تصوف میں پھنسی جدلیات ایک مطلق ضرورت بن جاتی ہے۔“ بلاشبہ جدلیات کے پاس کوئی جادوی صفت نہیں ہے کہ وہ جدید فزکس کو درپیش مسائل حل کر سکے۔ اس کے باوجود بھی ایک جامع اور مربوط فلسفہ، سائنسی تحقیق کی رہنمائی میں نتیجہ خیز معاونت کر سکتا اور اسے غیر منطقی اور تصوفانہ مفروضوں سے بچانے میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ ان غیر منطقی مفروضوں سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا۔ آج سائنس کو جن بے شمار مسائل کا سامنا ہے، اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ٹھوس فلسفیانہ بنیادوں سے محروم ہے۔

## جدلیات اور سائنس

بہت سے سائنسدانوں کا فلسفے کے ساتھ رویہ تو یہ تو ہین آمیز ہوتا ہے۔ جہاں تک جدید بیہودہ فلسفے کا تعلق ہے، یہ تو ہین ٹھیک بھی ہے۔ پچھلے ڈیڑھ سو سالوں سے فلسفہ ایک ایسے لبق و دق صحرا کی حالت میں ہے کہ جس میں زندگی کی رتق ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ ماضی کے بیش بہا خزانے اپنی قدیم عظمت اور روشن خیالی سمیت مکمل طور پر خواب و خیال ہو کے رہ گئے ہیں۔ نہ صرف سائنسدان بلکہ عام مردوزن بھی اگر اس خرابے میں قدم رکھیں تو انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کسی کو

امید کی کوئی کرن بھی نہیں ملے گی۔ اس تلخ حقیقت کے باوجود بھی سائنسدانوں کے فلسفے بارے تو بن آمیز رویوں کی کوئی مناسب وجہ موجود نہیں ہے۔ اس کیلئے اگر ہم جدید سائنس کی موجودہ کیفیت پر سنجیدگی سے نظر دوڑائیں، یا زیادہ درست انداز میں یہ کہیں کہ اس کی نظریاتی الجھنوں اور مفروضوں پر غور کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حقیقت میں سائنس نے کبھی خود کو اس طرح فلسفے سے آزاد نہیں کیا تھا۔ اسے ناخوشگوار انداز میں گھر سے باہر نکال دیا گیا ہے جس کے بعد سے فلسفہ عقبی دروازے (Back Door) سے سائنس میں داخل ہونے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ سائنسدان متکبرانہ انداز میں فلسفے سے اپنی مکمل بے نیازی کا دعویٰ کرتے ہوئے دراصل وہ سب مفروضے بیان کر رہے ہوتے ہیں جو اپنے کردار میں فلسفیانہ ہی ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ اس قسم کی لاشعوری اور بلا تقیدی فلسفہ بازی اپنی قدیم طرز سے کسی طور بلند نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں کم تر درجے کی حامل ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ روش کئی عملی غلطیوں کا باعث بھی بنی ہوئی ہے۔

چھٹی صدی کی شاندار سائنسی ترقی نے فلسفے کو بے سود اور متروک کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں کہ جہاں ہم کائنات کے گہرے اسرار و رموز میں مداخلت کر سکتے ہیں اور زیریں جوہری ذروں (Sub-Atomic Particles) کی پیچیدہ حرکات کو سمجھ سکیں۔ وہ قدیم سوالات جنہوں نے فلسفیوں کے دماغوں کو الجھا رکھا تھا، سائنس نے حل کر دیے گئے ہیں۔ یوں اس انداز میں فلسفے کا رول کم کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہم یہاں دوبارہ اپنی بات کو دہرائیں گے کہ دو شعبے ایسے ہیں جہاں فلسفے کی اہمیت ابھی تک برقرار ہے: ایک رسمی منطق اور دوسرا جدلیات۔

سائنس کی تاریخ کے حوالے سے جدلیاتی طریق کار اپنانے کی ایک بڑی کاوش 1962ء میں ٹی ایس کوہن کی کتاب ”سائنسی انقلابات کا ڈھانچہ“ کی اشاعت تھی جس نے سائنسی انقلابات کی ناگزیریت کو عیاں کرتے ہوئے یہ دکھایا کہ کون سا مکملہ میکروزم کہاں وقوع پذیر ہوا۔ ”ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے، اسے غائب ہونا ہے“ یہ بات نہ صرف زندہ اجسام کیلئے درست ہے بلکہ سائنسی تھیوریوں کیلئے بھی، یہاں تک کہ ان تھیوریوں کے لئے بھی جنہیں آج ہم مطلق مستند

سمجھے ہوئے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اینگلز اپنے ہم عصروں سے (جن میں بہت سے سائنسدان بھی شامل ہیں) فطری سائنس بارے اپنے رویوں میں بہت آگے تھا۔ اس نے نہ صرف یہ وضاحت کی کہ حرکت (توانائی) مادے سے ناقابلِ منتیج ہوتی ہے بلکہ یہ بھی واضح کیا کہ مختلف سائنسوں کے مابین اختلافات توانائی کی مختلف صورتوں کے اور توانائی کی ایک شکل کی دوسری شکل میں جدلیاتی تبدیلی کے مطالعے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اسی کو آج کل مراحل کی تبدیلی (عبوری مراحل) کہا جاتا ہے۔

بیسویں صدی میں سائنس کے تمام تر ارتقائے پرانی شعبہ جاتی تقسیم کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک سائنس کے دوسری سائنس میں جدلیاتی تعامل کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ مارکس اور اینگلز کو اپنے دور میں اپنے مخالفین کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے یہ کہا کہ نامیاتی (Organic) اور غیر نامیاتی (Inorganic) مادے کے مابین فرق اضافی ہوتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ نامیاتی مادہ اور ابتدائی زندہ اجسام ایک وقت پر غیر نامیاتی مادے سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ ارتقا میں ایک معیاری جست تھی۔ انہوں نے کہا کہ جاندار بشمول انسان، اس کا دماغ، اس کے تصورات اور اس کے عقائد، ایک مخصوص طرز میں مادے کی منظم شکل اور اعلیٰ پیمانے کی مادی حرکت ہوتے ہیں۔ نامیاتی اور غیر نامیاتی مادے کے مابین فرق، جسے کانٹ ایک ناقابلِ عبور رکاوٹ قرار دیتا تھا، اب ختم ہو چکی ہے۔ جیسا کہ پروفیسر فین مین نے کہا ہے:

”ہر چیز ایٹموں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ ایک ابتدائی مفروضہ ہے۔ مثال کے طور پر بائیولوجی کا سب سے اہم مفروضہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو جاندار کیا کرتے ہیں وہی ایٹم بھی کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کوئی بھی ایسی زندہ چیز نہیں ہے جسے اس نکتہ نگاہ سے نہ سمجھا جاسکتا ہو کہ وہ ایٹموں سے بنی ہوئی اور فرکس کے قوانین کے مطابق سرگرم ہیں۔“ (پروفیسر رچرڈ فین مین؛ طبیعات پر لیکچرز)

سائنسی نکتہ نگاہ سے مردوزن مخصوص طرز میں مرتب شدہ ایٹموں کا مجموعہ ہیں۔ لیکن ہم صرف ایٹموں کا منظم مجموعہ بھی نہیں ہیں۔ انسانی جسم ایک غیر معمولی طور پر پیچیدہ وجود ہوتا ہے۔ خاص

طور پر انسانی دماغ، جس کے ڈھانچے، خواص اور سرگرمی کو ہم نے اب سمجھنا شروع کیا ہے۔ یہ مذاہب کی بیان کردہ سبھی پرانی کہانیوں سے کہیں زیادہ حیران کن اور خوبصورت ہے۔ اسی دوران کہ جب مارکس سیاسی معاشیات میں انقلاب برپا کر رہا تھا، ڈارون انہی دنوں بائیولوجی کے شعبے میں انقلاب لارہا تھا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں کہ جب ڈارون کا کام سامنے آیا تو غم و غصے اور تضحیک کا ایک طوفان برپا کر دیا گیا لیکن مارکس اور اینگلز نے فوری طور پر شاندار خراج پیش کرتے ہوئے اسے جدلیاتی شاہکار قرار دیا۔ اگرچہ ڈارون خود اس رمز سے نا آشنا تھا۔ اس بظاہر تضاد کی وضاحت یوں ہے کہ جدلیات ایک اتفاقی ایجاد نہیں بلکہ یہ فطرت اور سماج میں حقیقی طور پر موجود عمل کا اظہار ہیں۔ جینیات کی دریافتوں نے بالکل اسی عمل کا کھوج لگایا ہے جو ایک نوع کے دوسری نوع میں تبدیلی کا تعین کرتا ہے۔ انسانی جینوم نے ڈارون کے کام کو ایک نئی جہت فراہم کر دی ہے اور عیاں کیا ہے کہ انسان اپنے جینز نہ صرف تخلی بلکہ زندگی کی انتہائی اولین شکل، بیکیٹریا کے ساتھ بھی شہیر کرتے ہیں۔

آنے والے چند سالوں کے دوران سائنسدان لیبارٹری میں تخلیق کا عمل سرانجام دیں گے۔ جس میں ایک غیر نامیاتی مادے میں سے ایک نامیاتی جسم پیدا کیا جائے گا۔ الہامی خالق کے پاؤں تلے سے زمین کا یہ چھوٹا سا حصہ بھی چھن جائے گا اور جو آخر کار کسی کام کا نہیں رہے گا۔ ایک لمبے عرصے تک سائنسدان یہ دلیل دیتے رہے کہ یا تو نئی انواع کی تخلیق لمبے عرصے سے چلی آرہی سست تبدیلیوں کا نتیجہ ہے یا پھر اچانک واقع ہونے والی کسی وحشی تبدیلی کا۔ جدلیاتی نکتہ نگاہ سے ان دونوں تصورات کے مابین کوئی تضاد نہیں ہے۔ مالیکولر تبدیلیوں (مقداری تبدیلیوں) کا ایک طویل دورانیہ ایک مقام پر آ کر اچانک کچھ ایسا پیدا کر دیتا ہے جسے آج کل کو اٹم جسٹ قرار دیا جاتا ہے۔

مارکس اور اینگلز کو یقین تھا کہ انواع کے ارتقا کی تھیوری اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ فطرت جدلیاتی انداز میں ہی کام کرتی ہوتی ہے، یعنی ترقی اور تضاد کے ذریعے، تین دہائی پہلے اس بات کو ایک انتہائی مقتدر ادارے برٹش میوزیم کی طرف سے بہت زیادہ پذیرائی میسر آئی جب

یہاں صدیوں پر محیط ایک قابل قدر خاموشی کو ایک تند و تیز بحث نے چیر رکھ دیا۔ ارتقائی کڑیوں میں معیاری جستوں کے تصور کا دفاع کرنے والوں کے خلاف ایک دلیل یہ تھی کہ یہ لوگ برٹش میوزیم کے معاملات میں کارل مارکس کو ملوث کر رہے ہیں۔ بہر حال اس کے باوجود جدید بائیولوجی کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنے پرانے تصور میں تبدیلی لائے کہ ارتقا ایک بتدریج، سیدھا، تبدیلیوں اور رکاوٹوں سے پاک ہوتا ہے اور یہ تسلیم کرے کہ معیاری جہتیں ہوتی ہیں کہ جن کے دوران کئی انواع ختم ہو جاتیں اور کئی پیدا ہوتی ہیں۔ 17 اپریل 1982ء کو جریدے "کانومسٹ" نے ڈارون کی صد سالہ یاد کے موقع پر ایک مضمون شائع کیا جس میں کہا گیا:

”روز بروز یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ چھوٹی، سادہ اور اچانک تبدیلیاں جو ترقی کے ایک اہم موڑ پر وقوع پذیر ہونے والی تبدیلی کو متاثر کرتی ہیں، بڑی ارتقائی تبدیلیوں کا باعث بنتی ہیں (مثال کے طور پر مخصوص جینز کے تعامل کی طرز میں چھوٹی سی تبدیلی دماغ کے سائز میں بڑے اضافے کا باعث بن سکتی ہے)۔ اس بات کے بھی شواہد اکٹھے کئے جا رہے ہیں کہ بہت سے جینز ایک سست لیکن ہموار تبدیلی کے عمل سے گزرتے ہیں۔ چنانچہ تھوڑا تھوڑا کر کے سائنسدان اس چلے آرہے قصبے کو حل کرتے جا رہے ہیں کہ کیا انواع طویل عرصے کی حامل آہستہ اور مسلسل تبدیلی سے گذرتی ہیں یا پھر ایک طویل عرصے تک ایک جیسی رہتی اور پھر اچانک ایک تیز ارتقائی تبدیلی کے تجربے سے گذرتی ہیں۔ امکان یہی ہے کہ دونوں قسم کی تبدیلیاں ہی وقوع پذیر ہوتی ہیں۔“

ارتقائی نظریے کا پرانا ماڈل یہ قرار دیتا آ رہا تھا کہ انواع صرف بتدریج تبدیل ہوتی ہیں، جو نئی ایک انفرادی جینیاتی تبدیلی (Mutation) رونما ہوتی ہے، اسے فطرت منتخب کر لیتی ہے۔ تاہم بعد میں سٹیفن جے گولڈ اور نائلز ایلڈریج نے "Punctuated Equilibrium" کے نام سے ایک نئی تھیوری پیش کی جس کے مطابق جینیاتی تبدیلیاں اچانک جستوں سے بھی واقع ہو سکتی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ سٹیفن جے گولڈ نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر سائنسدانوں نے اینگلیز کی تحریروں پر توجہ دی ہوتی تو وہ خود کو ایک ہزار سالوں کی غلطیوں سے محفوظ

رکھ سکتے تھے۔

## دیوالیہ ہوتی دنیا

2008ء میں شروع ہونے والے بحران کا پہلا مرحلہ بڑے بینکوں کے دیوالیہ ہو جانے پر مبنی تھا۔ امریکہ سمیت دنیا بھر کے بینکاری نظام کو ریاستوں کی طرف سے کھربوں ڈالر زور پوروز کے انجکشن لگا کر بچایا گیا۔ لیکن یہ سوال لازمی پوچھا جانا چاہئے کہ اس پرانے نظریے کا کیا بنا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر آزاد منڈی کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ سبھی مسئلے حل کر دے گی؟ اور اس عظیم نظریے کا کیا بنا کہ ریاست کو کسی طور معیشت کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہئے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی سرمائے کے انجکشن بھی نتیجہ خیز نہیں رہے۔ بحران ٹالے نہیں ٹل رہا، ختم ہونا تو کجا اس نے اپنا رخ ریاستوں کی طرف کر لیا ہے۔ جو ہو چکا ہے وہ یہ کہ بینکوں کے ایک بہت بڑے خسارے کی جگہ اب پبلک مالیات کا ایک بہت بڑا بلیک ہول سامنے آچکا ہے۔ اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اونچی ایڑیوں والے یہ بینکار؟ جنہوں نے اپنی کرتوتوں سے عالمی مالیاتی نظام کو ہی تہہ وبالا کر ڈالا اور جنہوں نے عوام کی خون پسینے کی کمائی کو چپکے سے اپنی جیبوں اور تجزیوں میں ڈال لیا ہے اور اب وہ خود کو بھاری بھاری بونسوں سے بھی نوازا رہے ہیں۔ نہیں قطعی طور پر نہیں۔ معاشی ماہرین اور سیاستدان جس خسارے کا اتنی تلخی و ترشی سے رونا رو رہے ہیں، اسے سماج کے سب سے کمزور اور غریب حصے پورا کریں گے۔ اچانک یہ پتہ چلا ہے کہ بوڑھوں، بیماروں اور بیروزگاروں کیلئے کوئی رقم موجود نہیں البتہ بینکاروں کیلئے بے بہا پیسہ موجود ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مستقل کٹوتیاں کرتی حکومتیں قائم ہو چکی ہے۔ لیکن یہ صورت حال پھر نئے تضادات کو پیدا کر رہی ہے، طلب کو کاٹنے سے منڈی سکڑ جاتی ہے جس سے زائد پیداوار کا بحران مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ اب معاشی ماہرین ایک اور انہدام کی پیش گوئی کر رہے ہیں جس سے کرنسیاں اور حکومتیں گرتی چلی جائیں گی اور جس سے عالمی مالیاتی نظام کے تانے بانے کھڑ جائیں گے۔ اس سے قطع نظر کہ سیاستدان خساروں سے نمٹنے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، قرضوں کی شرح اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ انہیں ادانہیں کیا جاسکتا۔ یونان اس حقیقت کی ایک زندہ مثال بن چکا ہے۔ مستقبل ایک اور گہرے بحران، گرتے ہوئے معیار زندگی، دردناک سمجھوتوں اور انسانوں کی اکثریت

کیلئے غربت میں دھکیلے جانے کے منظر نامے سے لبریز ہے اور یہ سب کچھ بڑے اور اعلیٰ پیمانے پر نئی سرکشیوں، نئی طبقاتی جدوجہدوں کو جنم دینے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا عالمی بحران ہے۔

کچھ نفیس لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر سوشلزم ناگزیر ہی ہے تو پھر اس کیلئے جدوجہد کیونکر کی جائے؟ ایک حقیقت کے طور پر یہ ممکن ہے کہ آپ ایک راسخ تقدیر پرست ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ایک سرگرم انقلابی کردار ادا کرنے کیلئے بھی خود کو وقف کرنے کو تیار ہوں۔ ساتویں صدی میں کالونیسٹس (Calvinists) سخت تقدیر پرست ہوتے تھے۔ ان کا اس بات پر کامل ایمان تھا کہ تقدیر پہلے سے متعین ہوتی ہے اور یہ کہ ہر مردوزن کی تقدیر اور نجات کا فیصلہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے کیا جا چکا ہوتا ہے۔ تاہم اس قدر راسخ العقیدگی بھی کالونیسٹوں کو کمزور پڑتے ہوئے جاگیر دارانہ نظام اور اس کے نظریاتی محافظ رومن کیتھولک چرچ کے خلاف جدوجہد میں انقلابی کردار ادا کرنے سے نہیں روک سکی۔ اس کی مختصر وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ انصاف کے قائل اور اپنے مقصد کی کامیابی کی ناگزیر فتح پر کامل یقین رکھتے تھے اور یہ اپنی جدوجہد کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کیلئے مکمل بہادری سے لڑتے تھے۔

اس وقت پرانا سماج اپنے قدموں پر کھڑا کھڑا امر رہا ہے اور ایک نیا سماج جنم لینے کی تگ و دو کر رہا ہے لیکن وہ صاحبان جو کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ امیر بنا چکے ہیں وہ ایسے سماج کے خاتمے کی ناگزیریت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ سب کچھ ڈوبتا دیکھ کر، حکمران طبقہ ترجیح دے گا کہ وہ سارے سماج کو ہی لے ڈوبے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی موت کے عمل کے طول پکڑنے نے انسانی تہذیب و ثقافت کیلئے سنگین اور مہلک خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ ہمارا یہ اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہم نئے سماج کے جنم کے عمل میں معاونت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ عمل نفاست سے سرانجام پائے اور کم سے کم تکلیف دہ ہو اور جس کے دوران انسانیت کا کم سے کم نقصان ہو۔ اپنے دشمنوں کے داویلے کے برعکس، مارکسٹ کسی طور تشدد کی وکالت نہیں کرتے لیکن ہم حقیقت پسند ہیں اور ہم یہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ پچھلے دس ہزار سالوں کی تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ کسی بھی حکمران

طبقے یا پرت نے اپنی دولت، طاقت اور مراعات سے بغیر لڑائی کیے دستبردار ہونا قبول نہیں کیا۔ اس کا عام مطلب یہی ہے کہ یہ لڑائی ابھی متروک نہیں ہوئی اور آج یہی معاملہ پھر سے درپیش ہے۔

یہ سرمایہ دارانہ نظام کی زوال پذیری ہی ہے کہ جس نے دنیا کو وحشیانہ ترین تشدد کی طرف دھکیل دیا ہے۔ تشدد کے امکانات کو کم سے کم کرنے، انتشار اور جنگوں کو ختم کرنے، سوشلزم کی طرف انتہائی پرسکون اور منظم عبور کیلئے سب سے پہلی ترجیح اور شرط یہ ہے کہ محنت کش طبقہ جدوجہد کیلئے متحرک ہو اور حتمی کامیابی تک لڑائی کی تیاری کرے۔

”تمام راستے تباہی کی جانب“

سرمایہ دارانہ نظام کی جانب سے ہر ایک کو محفوظ اور خوشحال مستقبل فراہم کرنے کے، اب تک پیش کیے جانے والے دکش دعوؤں کے بالکل برعکس جو حقیقی دنیا ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کروڑوں انسان غربت اور بھوک کا شکار ہیں جبکہ امیر لوگ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ ایک مستقل خوف کی حالت میں جی رہے ہیں کہ ان کا مستقبل کیسا ہوگا جس کا فیصلہ لوگوں کے معقول فیصلوں نے نہیں بلکہ منڈی کے وحشی اتار چڑھاؤ نے کرنا ہے۔ مالیاتی بحرانوں، وسیع پیروزگاری اور پے در پے سیاسی و سماجی سرکشیوں نے بہت سی چیزوں کو تہ و بالا کر دیا ہے۔ جو مستحکم اور مستقل چلا آ رہا ہوتا ہے، وہ راتوں رات تحلیل ہو جاتا ہے۔ یوں لوگ جن چیزوں کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں ان کے بارے سوالیہ انداز میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلسل بے چینی کی یہ کیفیت نفسیاتی طور پر انقلاب کیلئے زمین کو ہموار کرتی ہے جو آخر کار واحد قابل تصور حقیقی حل بن کر سامنے آتا ہے۔ اس بات کو عمل میں دیکھنے کیلئے کوئی ایک نظریہ یونان پر ڈالے تو اسے سمجھا جائے گی۔

ہر کوئی یہ بات جان چکا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام بحران میں ہے۔ لیکن اس بحران کا علاج کیا ہے؟ اگر سرمایہ دارانہ نظام انتشار اور تھل تھل کا حامل نظام ہے جو ناگزیر طور پر بحران پیدا کرتا رہتا ہے تو لامحالہ کوئی بھی یہ نتیجہ اخذ کرے گا کہ بحرانوں سے نجات کیلئے سرمایہ دارانہ نظام کو ہی ختم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ”الف“ کہہ سکتے ہیں تو پھر آپ کو ”ب“ پ، کہنا بھی آنا



چاہئے۔ لیکن بورژوا معاشی ماہرین یہ کچھ کرنے سے انکاری ہیں۔ کیا ایسے میگزیم موجود نہیں ہیں کہ جن کی مدد سے بورژوازی زائد پیداوار کے بحران سے باہر نکل سکے؟ بلاشبہ یہ موجود ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ شرح سود کو کم کیا جائے تاکہ منافعوں کی شرح کو بڑھایا جاسکے اور سرمایہ کاری کو فروغ دیا جاسکے۔ لیکن سود کی شرح تو پہلے ہی صفر کے قریب ہے۔ چلیں اسے کچھ اور کم کرتے ہیں یعنی اسے منفی سطح پر لے جاتے ہیں، اس سے بینک لوگوں کو قرض پر پیسے دیں گے۔ یہ سراسر پاگل پن ہے لیکن یہ سرمایہ دار ایسا کرنے بارے بحث مباحثے کر رہے ہیں! اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کس قدر بے چین ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ریاستی اخراجات بڑھائے جائیں اور یہی وہ طریقہ ہے جس کی اصلاح پسند اور کیٹھینسٹ ماہرین وکالت کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آزاد منڈی کی معیشت کے دیوالیہ پن کو عیاں کرتی ہے۔ نئی شعبہ اتنا کمزور، خستہ حال اور درست الفاظ میں بیان کیا جائے تو اتنا دیوالیہ ہو چکا ہے کہ اسے لازماً ریاست پر انحصار کرنا پڑ گیا ہے جیسے ٹانگوں سے محروم کسی فرد کو بیساکھیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لیکن یہ حل بھی بچنے کا راستہ نہیں دے رہا۔

یہ عیاں ہے کہ بینک اور بڑی اجارہ داریاں اپنی بقا کیلئے ریاست کی محتاج ہو چکی ہیں۔ مشکلات میں گھر جانے کے فوری بعد، یہ سب لوگ جو یہ کہتے آ رہے تھے کہ ریاست کو کسی طور بھی معیشت میں کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہئے، فوراً ہی ہاتھ پھیلائے حکومت کے پاس پہنچ گئے اور بھاری بھرم رقم فراہم کیے جانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ حکومت نے بھی انہیں فوری طور پر بلینک چیک دے دئے۔ عوامی سرمائے میں سے کھربوں پاؤنڈز بینکوں کے حوالے کر دیے گئے، مجموعی طور پر یہ رقم 14 کھرب ڈالرز کے لگ بھگ بنتی ہے۔ لیکن بحران جاری و ساری ہی نہیں بلکہ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے چار سالوں کے دوران جو حاصل ہوا ہے وہ اس قدر ہے کہ تباہی کا جو اثر ڈہا بینکوں کو نکلنے جا رہا تھا اب اس کا منہ پبلک مالیات کی جانب کر دیا گیا ہے۔ بینکوں کو بچانے کیلئے ہر عام فرد سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ قربانی دے لیکن بینکاروں اور سرمایہ داروں سے کسی قربانی کا نہیں کہا جا رہا۔ لہذا یہ لوگ ٹیکس ادا کرنے والوں کے پیسوں سے خود کو بھرم بھرم بونس دیتے چلے آ رہے ہیں۔ بھاری خساروں کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ ریاستی اخراجات میں

اضافہ کرنے کی کیشینٹ دلیل اپنے ہی بوجھ تلے دب چکی ہے۔ ریاست بھلا کس طرح سے وہ رقم خرچ کرے جو اس کے قبضہ قدرت میں ہی نہیں ہے؟ ایک راستہ ان کے لئے ابھی تک کھلا ہے اور وہ ہے کرنسی کی اشاعت، جسے انتہائی بھونڈے پن سے "Quantitative Easing" یعنی "مقداری آسانی" کا نام دیا گیا ہے۔ بہت بھاری مقدار میں مصنوعی سرمائے کے انجکشن سے معیشت کو چلانا اپنی تباہی کیلئے خود گڑھا کھودنے کے مترادف ہے۔ یہ اس نشئی کی سی کیفیت ہے جو خود کو زیادہ سے زیادہ مقدار کی منشیات کا ٹیکہ لگاتا ہے تاکہ پہلے جیسے اثرات لے سکے۔ یوں یہ نظام کو مزید زہریلا کرتے ہوئے اس کی صحت کو مزید تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ اقدام ایک حقیقی بوکھلاہٹ کا اظہار ہے جو جلد بیدار فراطرزیں میں اضافہ کرے گا۔ اس طریقے سے یہ آنے والے وقتوں میں ایک اور زیادہ گہرے بحران کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ یہ اس حقیقت کا ناگزیر نتیجہ ہے کہ پچھلے عرصے میں سرمایہ دارانہ نظام اپنی حدود سے باہر نکل چکا ہے۔ ایک بحران سے بچنے اور اسے روکنے کیلئے انہوں نے وہ طریقے پہلے ہی اختیار کر لئے جو اب جا کر ان کو بچا سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بحران اتنا گہرا اور سخت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسا کہ مارکس نے وضاحت کی تھی کہ سرمایہ دارانہ نظام اپنے بحرانوں سے اسی صورت میں نکلتا ہے کہ جب یہ "اپنے لئے مزید شدید اور زیادہ تباہ کن بحران پیدا کرے اور ان سبھی ذرائع کو تھس تھس کر دے جو کہ بحرانوں کو ٹال سکتے ہیں۔" (کیونٹ مینی فیسٹو)

بہت قدیم دنوں میں چرچ کہا کرتا تھا "سبھی راستے روم کی طرف"؛ آج کل بورژوازی نے نیا نعرہ لگا رکھا ہے "سبھی راستے بربادی کی طرف"۔ یہ بات ہی ناقابل تصور لگتی ہے کہ ایک بحران جو ساری دنیا کو انتشار میں دھکیلتا جا رہا ہے، جو لاکھوں انسانوں کو بیروزگاری، غربت اور مایوسی کی دلدل میں دھنساتا جا رہا ہے، جو نوجوان نسل سے ان کا مستقبل چھیننے پر اتر ا ہوا ہے، جو صحت، گھر، تعلیم اور ثقافت کو تباہ کر رہا ہے، ایسے میں یہ سب ایک سیاسی و سماجی بحران پیدا کئے بغیر ہوتا ہے گا۔ سرمایہ دارانہ نظام کا بحران ہر طرف انقلاب کیلئے حالات تیار کر رہا ہے۔

یہ کسی طور کوئی نظریاتی مفروضہ نہیں رہا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر ہم پچھلے بارہ مہینوں پر ہی نظر دوڑائیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کے بعد دوسرے ملک میں انقلابی تحریکیں وقوع پذیر ہوئی

ہیں۔ تینس، مصر، یونان، سپین، حتیٰ کہ امریکہ کے اندر آکوپائی وال سٹریٹ موومنٹ اور اس سے کچھ پہلے ورسکاسن میں بڑے عوامی احتجاج۔ یہ ڈرامائی واقعات ایک واضح علامت ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کا بحران عالمی سطح پر ایک مزاحمت پیدا کر رہا ہے۔ لوگ صورت حال سے انقلابی اسباق اخذ کرتے جا رہے ہیں۔

جب تک زمین، بینک اور بڑی اجارہ داریاں ایک محدود اقلیت کے ہاتھوں میں رہیں گی، تب تک سبھی بنیادی فیصلے بھی یہی اقلیت کرے گی، ایسے فیصلے جنہوں نے کرہ ارض کے کروڑوں انسانوں کی زندگیوں اور قسمتوں کو متاثر کرنا ہے۔ امیروں اور غریبوں میں بڑھ جانے والا ناقابل برداشت فرق، سماجی بندھنوں پر اپنا دباؤ بڑھائے چلا جا رہا ہے۔ پرانی سوشل ڈیموکریسی کے طبقاتی امن اور سماجی دوستی پر مبنی سماج کے خواب کی بنیادیں کچھ اس طرح ٹوٹ چکی ہیں کہ دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتیں۔ آکوپائی وال سٹریٹ موومنٹ کے ایک نعرے میں اس حقیقت کو اس طرح کوزے میں بند کر کے پیش کیا گیا ”ایک چیز جو ہم میں عام ہے وہ یہ ہے کہ ہم 99 فیصد ہیں جو کسی طور ایک فیصد کی لالچ اور بد عنوانی کو مزید برداشت نہیں کریں گے۔“

مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ احتجاجی تحریک اپنے مقاصد میں ابہام کا شکار ہے۔ یہ ایک مربوط پروگرام اور جراثیم قیادت سے محروم ہے۔ لیکن یہ غم و غصے کا عمومی اظہار ضرور کر رہی ہے جو کہ سطح کے نیچے پھل پھول رہا ہے اور جو جلد ہی اپنا رستہ ڈھونڈ نکالے گا۔ لیکن ایک بات جو طے ہے کہ یہ سبھی تحریکیں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہیں اور جلد یا بدیر، ایک یا دوسرے ملک میں سرمایہ دارانہ نظام کو اکھاڑ پھینکنے کے انقلابی اقدام کا سوال سامنے آجائے گا۔ سرمایہ دارانہ نظام کے ہوتے ہوئے، جیسا کہ مارکس نے واضح کیا تھا، پیداواری قوتوں نے انتہائی حیران کن ترقی کی ہے۔ اس کے باوجود بھی حکمران طبقات کے نظریات، اپنے سب سے انقلاب آفرین عہد میں بھی، پیداوار، تکنیک اور سائنس سے بہت پیچھے رہ گئے۔

ثقافت کو درپیش خطرہ

سائنس و ٹیکنیک اور انسانیت کی ترقی کے مابین فرق کا سب سے واضح اظہار دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ملک امریکہ میں ہوتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں سائنس نے سب سے حیران کن نتائج حاصل کئے ہیں۔ انسان کی حتمی نجات کی بنیادی شرط ٹیکنالوجی کی مسلسل ترقی ہے۔ انسان کی معیشت کی شعوری منصوبہ بندی کی بدولت غربت، ناخواندگی، جہالت، بیماری اور فطرت کے انسان پر غلبے کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ نہ صرف کرہ ارض بلکہ خلا کی تسخیر کا راستہ کھل چکا ہے۔ اس سب کے باوجود تکنیکی طور پر سب سے ترقی یافتہ ملک کے اندر قدیم ترین توہمات اپنی حکمرانی قائم کئے چلے آ رہی ہیں۔ دس میں سے نو امریکی ایک الہامی وجود پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ دس میں سے سات موت کے بعد زندگی پر ایمان رکھتے ہیں۔ 1968ء کے کرسمس کے دن، جب چاند کے گرد چکر لگانے والے پہلے انسان سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے امریکی عوام کیلئے خلا سے کیا پیغام دینا چاہتا ہے تو اس نے دنیا بھر کے ادب میں سے "Genesis" کی پہلی کتاب کا انتخاب کیا۔ جدید ترین آلات اور مشینری سے لیس اپنے خلائی جہاز میں بیٹھ کر اس نے یہ الفاظ کہے "ابتدا میں خدا نے زمین اور جنت کو تخلیق کیا۔"

ڈارون کی وفات کو ایک سو تیس سال سے زیادہ بیت چکے ہیں۔ امریکہ میں اب بھی لوگوں کی بڑی تعداد کو یقین ہے کہ بائبل میں جو کہا گیا ہے وہ حرف بحرف درست ہے۔ یہ لوگ سکولوں میں کتاب مقدس میں موجود انسانی تخلیق کے پڑھائے جانے کو فطری انتخاب پر مبنی ارتقائی نظریے کے پڑھائے جانے پر ترجیح دیتے ہیں۔ تخلیقی نظریے کو زیادہ معتبر بنانے کیلئے اس کے ہی خواہوں نے اسے "Intelligent Design" کا نیا نام دیا ہے جس سے فوری طور پر ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس ڈیزائن کو کس نے ڈیزائن کیا؟ اس معقول سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ نہ ہی کوئی اس بات کی وضاحت کر سکتا ہے کہ ان کے مبینہ ڈیزائن نے دنیا بنانے کا اتنا مایوس کن اور تباہ کن کام کیوں کر کیا؟ کیوں ایسی دنیا ڈیزائن کی جس میں کینسر، طاعون، ایڈز اور مائیکسین جیسی موذی بیماریاں ہیں۔ خون پی کر زندہ رہنے والے چوہے، کیڑے، سرمایہ دار اور بینکار کیوں ڈیزائن کئے گئے؟ اس بات کو بھی سوچا جانا چاہئے کہ کیوں ہمارے جینز کی بہت

بڑی تعداد بیکار مادے سے بنی ہوتی ہے؟ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے یہی تاثر ملتا ہے کہ ہمارے ذہن ڈیزائنراتے بھی ذہن نہیں ہیں۔ کیتائٹل کے بادشاہ عظیم الفانسو (84-1221ء) نے کہا تھا کہ ”اگر میں دنیا تخلیق کرتے وقت موجود ہوتا تو بہت ہی سو مند مشورے دیتا تا کہ ایک بہتر کائنات تشکیل دی جاسکتی۔“ بے شک ایک گیارہ سالہ اوسط درجے کا ذہن بچہ بھی اس سے بہتر کام کر لیتا۔ یہ درست ہے کہ مغربی ملکوں کے اندر چرچ کی اتھارٹی انحطاط کا شکار ہے۔ عملی ایمان رکھنے والوں کی تعداد بہت کم بچی ہے۔ سپین اور آئر لینڈ جیسے ملکوں میں تو چرچ کو نئے پادری بھرتی کرنے میں مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں عوام خاص طور پر نوجوانوں کی چرچ میں حاضری بہت تیزی سے کم ہوئی ہے۔ تاہم چرچ کے اس انحطاط کے بعد سے مختلف قسموں اور طرزوں کے فرقے، مصری طاعون کی وبا کی طرح پھیلے ہیں جو ہر قسم کے تصوف اور توہمات سے اٹے ہوئے ہیں۔ قرون وسطیٰ کے بربریت کے عہد کی باقیات میں سے ایک، دست شناسی ایک فیشن کی طرح عام ہو چکی ہے۔ سینما، ٹیلی ویژن اور کتب خانے اس قسم کے مواد سے لبریز ہیں جو بہت عریاں تصوف اور توہم پرستی پر مبنی ہیں۔ یہ سب کچھ ایک سماجی نظام کے گلنے سڑنے کی واضح نشانیاں ہیں جو اپنی عمر پوری کر چکا ہے اور جو کسی طور ایک تاریخی ترقی پسند قوت نہیں رہا اور جو آخر کار پیداواری قوتوں کے خلاف کھلے تصادم پر اتر آیا ہے۔ اس تناظر میں محنت کش طبقے کی طرف سے بورژوا سماج کے درد زدہ حصے کو ایک سرجن کی طرح کاٹ پھینکنے کی جدوجہد کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ سائنس اور کلچر کی ان حاصلات کے دفاع کی بھی جدوجہد ہے جنہیں بربریت کی قوتیں ہڑپ کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔

انسانیت کے سامنے واضح متبادل موجود ہیں۔۔۔ سماج کی سوشلسٹ تبدیلی، بورژوازی کی سیاسی اور معاشی قوتوں کا خاتمہ، انسانی تہذیب کی ترقی کیلئے ایک نئے مرحلے کی جستجو اور تنگ وود۔۔۔ یا پھر تہذیب، یہاں تک کہ خود زندگی کا خاتمہ اور تباہی۔ ارضیات کے ماہرین مسلسل یہ اعتقاد کرتے آرہے ہیں کہ ماحول کو برباد کیا جا رہا ہے اور اس سے انسانیت کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ یہ لوگ بالکل درست کہتے ہیں لیکن یہ اس نا تجربہ کار ڈاکٹر سے مشابہت رکھتے ہیں جو بیماری کی

علامات کی تو نشاندہی کرتا ہے لیکن بیماری کی نوعیت کی تشخیص نہیں کر سکتا یا اس کا علاج نہیں تجویز کر سکتا۔ نظام کی تنزلی کی علامات ہر سطح پر واضح ہیں، نہ صرف معاشیات کے شعبے میں بلکہ اخلاقیات، ثقافت، فن، موسیقی اور فلسفے میں بھی۔ سرمایہ دارانہ نظام کو طول دینے کی کوشش میں صرف پیداواری قوتوں کو ہی تباہ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ اس سے کلچر کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں، اس سے شکستگی کے جذبات تقویت پا رہے ہیں اور سماج کی سبھی پر تیں چڑھ چڑھے پن کی زد میں آئی ہوئی ہیں۔ ان سب کے مستقبل میں بہت بھیا تک اثرات سامنے آئیں گے۔ آگے چل کر سرمایہ دارانہ نظام کا وجود جمہوریت اور محنت کش طبقے کے ٹریڈ یونین حقوق کے ساتھ بھی دشمنی پر اتر آئے گا۔ جرائم اور تشدد میں اضافہ، جنسی بے راہروی، بورژوا خود غرضی، دوسروں کی تکالیف سے بے رحمانہ بے نیازی، اذیت پسندی، خاندان کی ٹوٹ پھوٹ اور روایتی اخلاقیات کا انہدام، منشیات اور شراب نوشی میں اضافہ۔۔۔ یہ سب چیزیں مل کر رجحیت پرستوں کے منافقانہ غم و غصے کو مشتعل کرتی جا رہی ہیں اور یہ سب سرمایہ دارانہ نظام کی کامل زوال پذیری کی علامات ہیں۔ سلطنتِ روم میں غلام دارانہ سماج کے انحطاط کے وقت بھی بالکل ایسا ہی مظہر سامنے آیا تھا۔ سرمایہ دارانہ نظام جو منافع کو ہر دوسری چیز پر ترجیح دیتا ہے، اب اس فضا کو جس میں ہم سب سانس لیتے ہیں، اس خوراک کو جسے ہم کھاتے، اس پانی کو جسے ہم پیتے ہیں زہر یلا کرتا جا رہا ہے۔ یورپ میں گوشت کی پیداوار میں ملاوٹ کا حالیہ نیا سکیٹل اس کی غمازی کرتا ہے اور یہ تو ابھی برفشار کا پہلا قطرہ ٹپک کے سامنے آیا ہے۔ اگر ہم بڑی اجارہ داریوں یا بینکوں کو مزید پچاس سال یا زیادہ عرصہ کام کرتے رہنے دیں گے تو عین ممکن ہے کہ کمرۂ ارض کی تباہی اس نقطے تک پہنچ جائے کہ جسے پھر سنبھالنا ہی ناممکن ہو جائے اور یوں انسانیت کے وجود کا مستقبل ہی داؤ پر لگ جائے۔ چنانچہ سماج کو تبدیل کرنے کی جدوجہد اب زندگی اور موت کی جدوجہد بن چکی ہے۔

### منصوبہ بند معیشت کی ضرورت

گزشتہ بیس سالوں کے دوران یہ معاشی پروپیگنڈہ سن سن کر ہمارے کان پک گئے تھے کہ

ایک سوشلسٹ منصوبہ بند معیشت کا نظریہ مرچکا ہے اور یہ کہ منڈی کی معیشت اپنے ہی سبھی اوزاروں اور طریقوں سے بیروزگاری کو یکسر ختم کرتے ہوئے دنیا کو امن اور خوشحالی سے ہمکنار کر دے گی۔ اب 2008ء کے مالیاتی انہدام کے بعد سے لوگوں کے سامنے یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح کھل کر سامنے آچکی ہے کہ موجود نظام سب سے بنیادی انسانی ضروریات تک فراہم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یعنی ایک روزگار، زندہ رہنے کیلئے درکار اجرت، ایک گھر، اچھی تعلیم، علاج معالجہ، ایک مناسب پنشن، ایک محفوظ ماحول، آبادی کی بہت بڑی اکثریت کیلئے صاف ہوا اور صاف پانی۔ ایسے نظام کی ملامت کرنا ان تمام غور و فکر کرنے والے انسانوں کا فرض بنتا ہے جن کی آنکھیں بیہودہ دلائل کی ان چکاچوند بجلیوں سے اندھی نہیں ہوئیں، جو تو اتر کے ساتھ پیش کئے جاتے آ رہے ہیں اور جن کا حتمی مقصد ان لوگوں کے مخصوص مفادات کا تحفظ کرنا ہے جو اس نظام کے ڈھانچوں سے کلیتاً مستفید ہوتے چلے آ رہے ہیں اور جو کبھی بھی یہ یقین نہیں کر سکتے اور نہ ہی کریں گے کہ سب اسی طرح نہیں چلے گا اور اسے ایک دن ختم ہونا ہے۔

کیونٹ مینی فیسٹو اور اس کتاب کا مرکزی نکتہ یہ انقلابی پیغام ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام ہمیشہ کیلئے نہیں ہے۔ یہ وہ عنصر ہے جسے موجودہ نظام کے عذر خواہوں کیلئے لگانا مشکل ہو رہا ہے اور یہ بات فطری بھی ہے۔ تاریخ کے ہر سماجی معاشی نظام کو یہی خوش فہمی لاحق رہی ہے کہ سماجی ترقی صرف اسی کے ہی قدم سے وابستہ ہے اور رہے گی۔ حالانکہ عام انسانی فہم کے نکتہ نگاہ سے بھی یہ سوچ صریحاً غلط ہے۔ اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ فطرت میں ہر شے تبدیلی کے عمل سے گزرتی ہے تو پھر سماج اس سے کیسے مبرا ہو سکتا ہے؟ جو حقائق ہم نے سامنے رکھے ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام اپنے ترقی پسندانہ مشن سے دستبردار ہو چکا ہے۔ ہر ذہین انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ پیداواری قوتوں کی آزادانہ ترقی تقاضا کرتی ہے کہ دنیا کے سبھی ملکوں کی معیشت کو ایک مشترکہ منصوبے میں باہم جوڑ دیا جائے۔ جس کی بدولت ہم کرہ ارض کے بے شمار اور بیش بہا وسائل کو دنیا بھر کے انسانوں کیلئے بروئے کار لانے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس سچائی کو وہ سبھی

سائنسدان اور ماہرین بھی تسلیم کرتے ہیں جن کا سوشلزم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں لیکن جن کے دل و دماغ اس کرب سے بھرے ہوئے ہیں کہ نسل انسانی کا دو تہائی حصہ انتہائی ہولناک حالات میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں اور اس بارے سخت تشویش کا شکار ہیں کہ ماحولیات کی تباہی کیا کیا کھلا رہی ہے۔ بد قسمتی سے ان کی نیک نیتی پر مبنی باتیں اور مطالبات سماعت سے محروم لوگوں پر کوئی اثرات مرتب نہیں کر رہے کیونکہ ان کی وجہ سے بڑی اجارہ داریوں کے مفادات پر حرف آتا ہے جن کا عالمی معیشت پر قبضہ اور غلبہ ہے اور جن کے حساب کتاب میں انسانیت کی فلاح و بہبود اور کرۂ ارض کے مستقبل نام کی کوئی شے وجود ہی نہیں رکھتی۔ کبھی نہ ختم ہونے والے لالچ اور منافعوں کیلئے بھاگ دوڑ ہی ان کیلئے زندگی کی سب سے پہلی اور حتمی ترجیح ہے۔

معاشی منصوبہ بندی کی سرمایہ دارانہ انتشار پر برتری کو تو خود بورژوازی بھی سمجھتی ہے، اگرچہ اس کا وہ کھلے بندوں اعتراف نہیں کر سکتی۔ جب ہٹلر کی فوج نے 1940ء میں فرانس کو تہہ و بالا کر ڈالا تھا اور برطانیہ کو اپنی پشت دیوار سے لگانے پر مجبور کر دیا تھا، تب انہوں نے کیا کیا اور کیا کہا تھا؟ کیا یہ کہا تھا کہ منڈی کی قوتوں کو فیصلہ کرنے دیا جائے؟ ہرگز نہیں، بلکہ انہوں نے معیشت کو مرکوز کر لیا تھا، ضروری صنعتوں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا تھا اور فوری طور پر موثر حکومتی کنٹرول لاگو کر دیے گئے تھے، کئی معاشی قواعد و ضوابط متعارف کرائے گئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں مرکزیت اور منصوبہ بندی پر مائل ہوئے؟ اس کی صاف سیدھی وجہ ہے کہ معاشی منصوبہ بندی بہت بہتر نتائج دیتی ہے۔ اس میں کوئی بحث نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت پیداوار کی کوئی حقیقی منصوبہ بندی ناممکن ہوتی ہے۔ تاہم اس کے باوجود جنگ کے دنوں میں چرچل کی مخلوط حکومت کی طرف سے ریاستی سرمایہ دارانہ منصوبہ بندی، ہٹلر کو شکست دینے کیلئے بہت ضروری تھی۔ اس کی ایک اور حیران کن مثال سوویت یونین بھی تھا۔ یورپ میں دوسری عالمی جنگ دراصل ہٹلر کے جرمنی کی، جسے سارے یورپی وسائل کی پشت پناہی بھی میسر تھی، سوویت یونین کے ساتھ بہت بڑے تنازعے کا شاکسنا تھی۔ یہ سوویت یونین تھا جس نے ہٹلر کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ اس غیر معمولی فتح کو



سرمایہ دارانہ نظام کا دفاع کرنے والے کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اپنا ثبوت بھی آپ پیش کرتی ہے۔ قوم یائی گئی منصوبہ بند معیشت ہی سوویت یونین کو جنگ میں واضح برتری دلانے کا سبب بنی تھی۔ سٹالن کی مجرمانہ پالیسیوں اور بیوقوفیوں کے باعث سوویت یونین جنگ میں انہدام کے قریب پہنچ چکا تھا لیکن منصوبہ بند معیشت کے باعث سوویت یونین کو بحالی کا موقع مل گیا اور اس نے اپنی صنعتی اور عسکری صلاحیت کو دوبارہ استوار کر لیا۔ روسیوں نے مغرب میں واقع اپنی سبھی صنعتوں کو اکھاڑ دیا۔ 1500 کارخانوں اور ڈیڑھ کروڑ ورکروں کو ریل اور بحری جہازوں کے ذریعے یورال کے مشرقی علاقے میں منتقل کر دیا جہاں وہ جرمنوں کی دسترس سے باہر تھے۔ کچھ ہی مہینوں کے اندر سوویت یونین، جرمنی کو ٹیکوں، بندوقوں اور جہازوں کی پیداوار میں پیچھے چھوڑ گیا۔ اس سے بلاشک و شبہ قوم یائی گئی منصوبہ بند معیشت کی دیوہیکل برتری ثابت ہو جاتی ہے۔ ہر چند کہ یہ سٹالنسٹ افسر شاہی کے زیر انتظام ہی تھی۔ دوسری عالمی جنگ میں سوویت یونین کے 2 کروڑ 70 لاکھ افراد جاں بحق ہوئے تھے جو مجموعی اموات کا نصف تھے۔ اس کی صنعت اور زراعت بھی شدید ہولناک تباہی سے دوچار ہوئی۔ اس کے باوجود دس سالوں میں ہی ہر چیز دوبارہ سے تعمیر کر لی گئی تھی اور اس کیلئے باہر سے کوئی سرمایہ بھی فراہم نہیں کیا گیا تھا جیسا مغربی یورپ کو امریکہ نے مارشل پلان کے تحت فراہم کیا۔ عالمی جنگ کے بعد کا حقیقی معاشی معجزہ جاپان اور جرمنی نے نہیں، سوویت یونین نے کر دکھایا تھا۔

بلاشبہ سوشلزم کو جمہوریت کی بنیاد پر استوار ہونا چاہئے لیکن یہ وہ مصنوعی جمہوریت نہیں جو امریکہ اور برطانیہ میں رائج ہے، کہ جس میں کوئی بھی بول تو سکتا ہے لیکن جہاں سبھی فیصلے بڑے بینک اور اجارہ داریاں ہی کرتی ہیں۔ اس کے برعکس ایک ایسی حقیقی اور خالص جمہوریت کہ جس کا کنٹرول اور انتظام سماج کے پاس ہو اور جس میں کام کرنے والے خود شریک ہوں۔ اس آئیڈیے میں کچھ بھی یوٹوپیا ہی نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پہلے ہی موجود ہے۔ یہاں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ راقم الحروف کیلئے یہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والی حیرانی ہے کہ ٹیسکو (Tesco) جیسی

ایک بڑی سپر مارکیٹ کس طرح سے اتنی بڑی مقدار میں چینی، بریڈ اور دودھ اکٹھا کرتی ہے جو کہ لندن شہر کے ایک ایسے علاقے کیلئے کافی ہو جاتا ہے جس میں لاکھوں افراد رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ سائنٹفک منصوبہ بندی سے ممکن بنایا جاتا ہے اور اس میں کوئی تعطل بھی نہیں آتا۔ اگر ایک سپر مارکیٹ کیلئے اس سطح تک کی منصوبہ بندی کارگر ہو سکتی ہے تو منصوبہ بندی کا طریق کار سارے سماج کیلئے کیوں قابل عمل نہیں ہو سکتا؟

### سوشلزم اور بین الاقوامیت

جس نے بھی کمیونسٹ مینی فیسٹو کا مطالعہ کیا ہے اسے علم ہے کہ مارکس اور اینگلس نے اس صورتحال کی 150 سوسال پہلے پیش گوئی کر دی تھی۔ انہوں نے واضح کیا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام لازماً ایک عالمی نظام کے طور پر ترقی کرے گا۔ آج یہ تجزیہ واقعات اور حالات نے بالکل درست ثابت کر دیا ہے۔ آج کی موجودہ کیفیت میں کوئی شخص بھی عالمی منڈی کے بے رحمانہ غلبے سے انکار نہیں کر سکتا۔ جب یہ لکھا جا رہا تھا تب عملاً کوئی ایسے اعداد و شمار بھی دستیاب نہیں تھے جو اس مفروضے کی معاونت کرتے۔ تب صرف برطانیہ ہی واحد حقیقی ترقی یافتہ سرمایہ دار معیشت تھی۔ فرانس اور جرمنی تو اس وقت تک متحدہ اکائی بھی نہیں تھے اور فرانس کی نوزائیدہ صنعتیں تب انتہائی بلند تیرف کی فنیلوں میں قید تھیں اور اس حقیقت کو تو آج یکسر فراموش ہی کر دیا گیا ہے۔ مغربی معاشی ماہرین آج دنیا بھر کو یہ پر جوش لیکچر دیتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی معیشتوں کو کھول دیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں یہ ماہرین ”گلوبلائزیشن“ کے بارے میں بہت باتیں کرتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ یہی وہ نسخہ کیما ہے جس کی مدد سے وہ عروج و زوال کے چکروں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ 2008ء کے انہدام نے ان کے سارے خواب چکنا چور کر ڈالے جس کے شدید اثرات ساری دنیا پر مرتب ہوئے۔ اس نے گلوبلائزیشن کے دوسرے رخ کو بے نقاب کر دیا۔ سرمایہ دارانہ نظام ترقی کی جس سطح تک عالمی معیشت کو لے جاتا ہے اتنی سطح کی گراوٹ کے اسباب بھی یہ پیدا کرتا جاتا ہے۔ کسی ایک ملک میں بھی جنم لینے والا بحران جلد ہی دوسروں کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیتا ہے۔ عروج و زوال کے چکروں سے نجات تو بڑی دور کی بات ہے،

پہلے کے کسی بھی عہد کے مقابلے میں گلوبلائزیشن زیادہ تباہ کن اور عالمگیر اثرات کی حامل ثابت ہوئی ہے۔

بنیادی مسئلہ خودیہ نظام ہی ہے۔ مارکس کے الفاظ میں ”سرمایہ دارانہ پیداوار کے راستے کی حقیقی رکاوٹ خود سرمایہ ہی ہوتا ہے۔“ (سرمایہ؛ جلد 3؛ حصہ سوم) معاشی پنڈت جو مارکس کو غلط قرار دیتے آرہے تھے اور فرما رہے تھے کہ عروج و زوال اب ماضی کا قصہ ہو چکے ہیں اور یہ کہ ہم ایک نئے معاشی عہد میں قدم رکھ چکے ہیں، ان کے سبھی فرمان غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ موجودہ ”عروج“ اپنے اندر معاشی چکر کے وہ سبھی خدوخال رکھتا ہے جس کی نشاندہی مارکس نے بہت عرصہ پہلے کر دی تھی۔ سرمائے کے ارتکاز کا عمل ناقابل تصور بلند یوں کو پہنچا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی دوڑ زوروں پر ہے تاکہ اجارہ داریت میں اضافہ کیا جاسکے اور یہ عمل پیداواری قوتوں کو ترقی بھی نہیں دے رہا جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا۔ اس کے بالکل برعکس کارخانے اس انداز میں بند ہو رہے ہیں جیسے وہ ماچس کی ڈبیاں ہوں۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں محنت کشوں کو روزگار سے باہر دھکیلا جا رہا ہے۔

مانیٹرازم، جسے نیولبرل ازم کی بائبل قرار دیا جاتا ہے، کو جان کینینتھ گلبرائٹھ نے اس طرح کوزے میں بند کر کے پیش کیا تھا کہ ”غریبوں کے پاس بے پناہ دولت ہے جبکہ بیچارے امیروں کے پاس بہت ناکافی ہے۔“ ریکارڈ منافع، اپنے پہلو میں ریکارڈ نا برابر ہی بھی لئے ہوئے ہے۔ جریدے ”اکانومسٹ“ کے مطابق ”پچھلے پچیس سالوں کے دوران جو حقیقی رجحان متواتر رواں دواں رہا ہے وہ بالاترین عہدوں پر براجمان لوگوں کی آمدنیوں میں زیادہ سے زیادہ اضافے کا ہے۔“ ایک انتہائی محدود اقلیت انتہائی امیر ترین ہے۔ جبکہ محنت کرنے والوں کا ملکی آمدنی میں حصہ کم سے کمتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سمندری طوفان کترینا نے ساری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ کس طرح تیسری دنیا جیسے لوگوں کی طرح سے امریکی شہری دوسرے درجے کے محروم انسانوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج امریکی محنت کش دس سال پہلے کی بہ نسبت 30 فیصد زیادہ پیداوار دے رہے ہیں جبکہ ان کی اجرتوں میں بمشکل ہی کوئی اضافہ ہوا ہے۔ سماجی تانا بانا تیزی سے کچھاؤ کی زد میں آتا جا رہا ہے۔ سماج میں تناؤ بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ کیفیت امیر ترین ملکوں میں

بھی ہے۔ یہ سب کچھ طبقاتی جدوجہد کے ایک بہت بڑے دھماکے کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ یہ صرف امریکہ ہی کا معاملہ نہیں ہے، ساری دنیا میں ”عروج“ اپنے ساتھ ایک بہت بڑی بیروزگاری کے ساتھ موجود ہے۔ پہلے کی گئی اصلاحات اور دی گئیں رعایتیں واپس لی جا رہی ہیں۔ عالمی منڈی میں واپسی کیلئے اور مقابلے کی دوڑ میں شامل ہونے کیلئے اٹلی کو پانچ لاکھ محنت کشوں کو روزگار سے نکالنا پڑے گا جبکہ بیچ جانے والوں کو اجرتوں میں 30 فیصد کمی قبول کرنا پڑے گی۔ ایک وقت تک تو سرمایہ دارانہ نظام عالمی تجارت (گلوبلائزیشن) کو بڑھاتے ہوئے اپنے تضادات کو دبانے میں کامیاب رہا۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ساری دنیا کھنچ کر عالمی منڈی کا حصہ بنتی چلی گئی۔ سرمایہ داروں کو نئی منڈیاں اور چین سمیت دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری کے مواقع میسر آ گئے۔ لیکن اب یہ سب کچھ اپنی حدود کو پہنچ چکا ہے۔ امریکی اور یورپی سرمایہ داروں میں اب گلوبلائزیشن اور آزاد تجارت بارے پہلے جیسا جوش و جذبہ باقی نہیں رہا کیونکہ سستی چینی ایشیا کے انباران کے گھروں کے باہر لگے ہوئے ہیں۔ امریکی سینیٹ میں پروٹیکشنسٹ (Protectionist) مطالبات بلند ہونے شروع ہو گئے ہیں اور ان کے اصرار میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ چینی ایشیا پر پابندیاں نافذ کی جائیں۔ دوحہ مذاکرات معطل کر دیے گئے۔ تضادات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ کوئی سمجھوتہ ممکن نہیں ہو سکا۔ موجودہ غیر مستحکم ”عروج“ کے غبارے سے بھی ہوائنٹنی شروع ہو گئی ہے۔ امریکہ میں صارفیت کا ”عروج“ بنیادی طور پر کم شرح سود کی وجہ سے ہے جو کہ وسیع پیمانے کے کریڈٹ اور قرضوں پر استوار ہے۔ یہ عوامل اپنی الٹ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ عالمی سطح پر ایک نیا بحران دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے کیلئے تیار ہے۔ چنانچہ گلوبلائزیشن اپنا اظہار سرمایہ دارانہ نظام کے گلوبلائز بحران کی شکل میں کر رہی ہے۔

کیا کوئی متبادل نہیں ہے؟

بورژوا ماہرین معیشت اس درجہ تنگ نظر اور کورچشم ہو چکے ہیں کہ وہ متروک ہو چکے سرمایہ دارانہ نظام سے ابھی تک چمٹے ہوئے ہیں جبکہ وہ یہ بھی اعتراف کرنے پر مجبور چکے ہیں کہ اس نظام

کا سارا جسم مہلک بیماریوں کی پکڑ ہو سکتا ہے۔ یہ سوچنا ہی انسانیت کی توہین کرنا ہے کہ نسل انسانی اس قابل ہی نہیں کہ وہ اس گلے سڑے، بدعنوان، زوال آفرین نظام کا کوئی بہتر متبادل نظام تخلیق کر سکے۔ کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کا کوئی متبادل نہیں ہے؟ جی نہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک متبادل نظام موجود ہے جو کہ چند ایک لوگوں کے منافعوں کیلئے نہیں بلکہ سب کیلئے پیداوار کا حامل ہوگا۔ یہ نظام انتشار اور بے یقینی کی جگہ ہم آہنگی پر مبنی منصوبہ بندی کو متعارف کرائے گا۔ یہ نظام چند امیر طفیلی افراد کی حکمرانی کی جگہ اس اکثریت کی حکمرانی قائم کرے گا جو کہ سماج کی ساری دولت کو پیدا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس متبادل کا نام سوشلزم ہے۔ کچھ لوگ اس لفظ پر سوال کر سکتے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ اس نظام کا نام ہی سوشلزم ہے، یہ وہ افسر شاہانہ اور مطلق العنان نظام نہیں جو کہ سٹالنٹ روس میں تھا۔ سوشلزم ایک خالص جمہوریت ہے جو کہ پیداواری قوتوں پر محنت کش طبقے کی ملکیت، کنٹرول اور انتظام پر مبنی ہوتی ہے۔ کیا یہ نظریہ واقعی اتنا مشکل ہے کہ اسے سمجھا بھی نہ جاسکے؟ کیا یہ تجویز واقعی کوئی یوٹوپیا ہے کہ نسل انسانی اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی اور سماج کو پیداوار کے جمہوری منصوبے کے تحت نہیں چلا سکتی!

ایک سوشلسٹ منصوبہ بند معیشت کا نظریہ مارکس یا کسی اور مفکر کی ایجاد نہیں ہے بلکہ یہ معروضی ضرورت سے ابھرنے والی حقیقت ہے۔ ایک عالمی سوشلزم کے امکانات خود سرمایہ دارانہ نظام کے موجودہ حالات میں سے ہی سامنے آ رہے ہیں۔ اس کیلئے محنت کش طبقے کو سماج کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں لینے کی ضرورت ہے۔ محنت کشوں کا اقتدار جو بینکوں، اجارہ داریوں کو بے دخل کرتے ہوئے موجودہ اور اب تک کام نہ لائے جاسکی پیداواری صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے سماج کے مسائل کو حل کر سکے۔ مارکس نے لکھا تھا کہ ”کوئی بھی سماجی نظام اس وقت تک تباہ نہیں ہوتا کہ جب تک وہ پیداواری ذرائع کو ترقی دے سکتا ہے۔“ (کارل مارکس، دیباچہ، سیاسی معاشیات پر تنقید) سرمایہ دارانہ نظام کی تشکیل کردہ ترقی نے انسانی سماج کی ایک نئی اور بلند و برتر صورت کیلئے معروضی حالات تیار کر دیے ہیں۔ پچھلے دو سو سالوں کی صنعت، زراعت، سائنس اور

تکنیک کی ترقی نے ایسی رفتار اور شدت اپنالی ہے کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال موجود نہیں ہے۔

”بورژوا طبقہ آلات پیداوار میں اور ان کی وجہ سے تعلقات پیداوار میں اور ان کے ساتھ ساتھ سماج کے سارے تعلقات میں لگا تار انقلابی تبدیلیاں کئے بغیر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اس کے برعکس پیداوار کے پرانے طریقوں کو بلا کسی رد و بدل کے جو کاتوں قائم رکھنا، پہلے زمانے کے تمام صنعتی طبقات کے بقا کی بنیادی شرط ہوتی تھی۔ پیداوار میں پیہم انقلابی الٹ پلٹ، جملہ سماجی تعلقات میں لگا تار خلل اندازی، دائمی عدم استحکام اور ہلچل بورژوازی کے عہد کو پہلے کے تمام زمانوں سے ممتاز کرتی ہے۔“ (مارکس اینگلز، کمیونسٹ پارٹی کا مینی فیسٹو، باب 1، بورژوازی اور پرولتاریہ)

مارکس کے یہ الفاظ کتنے درست ہیں اور آج کے حالات میں کتنے بر محل ہیں! جن مسائل کا ہم سب کو سامنا ہے ان کا حل بھی موجود ہے۔ پچھلے دو سو سالوں کے دوران سرمایہ دارانہ نظام نے دیوہیکل پیداواری قوت تعمیر کی ہے لیکن نظام اس کی پوری صلاحیت سے استفادہ کرنے سے قاصر ہے۔ موجودہ بحران اس حقیقت کی غمازی ہی ہے کہ صنعت، سائنس اور تکنیک اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں اب ان کو نجی ملکیت اور قومی ریاست کی قیود میں محدود نہیں رکھا جاسکتا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد ہونے والی ترقی تو خاص طور پر تاریخ میں اپنی مثال ہی نہیں رکھتی۔ نیوکلیر توانائی، مائیکرو ایکسٹرنس، ٹیلی کمیونیکیشنز، کمپیوٹرز، صنعتی روبوٹس۔۔۔ ان سب کی مدد سے پیداواری صلاحیت کو کام میں لاتے ہوئے ان بلندیوں تک پہنچایا جاسکتا ہے جن کا مارکس کے دور میں تصور تک بھی ممکن نہیں تھا اور جس سے ہمیں واضح اندازہ ہو جاتا ہے کہ مستقبل میں سوشلزم کے تحت کیا کیا امکانات و ممکنات ہوں گے، جب معیشت منصوبہ بند ہوگی اور وہ بھی عالمگیر سطح پر۔ موجودہ بحران دراصل پیداواری قوتوں کا ان مذکورہ بالا رکاوٹوں کے خلاف اعلان بغاوت ہے جن کی وجہ سے ان قوتوں کا دم گھٹتا جا رہا ہے۔ ایک بار جب صنعت، زراعت، سائنس، تکنیک سرمایہ دارانہ نظام کی ان رکاوٹوں کو پھلانگ کر آزاد ہو جائیں گے تو پیداواری قوتیں کم وقت میں آسانی اور

سہولت سے تمام تر انسانی میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ انسانیت اپنی کامل صلاحیت کے احساس سے مستفید اور محفوظ ہوگی۔ اوقات کار میں ایک عمومی کمی، ایک خالص ثقافتی انقلاب کی حقیقی مادی بنیادیں فراہم کرے گی۔ ثقافت، فن، موسیقی، ادب اور سائنس ناقابل تصور بلند یوں کو چھو پائیں گے۔

### واحد راستہ!

بیس سال پہلے نوکویا نے تاریخ کے اختتام کا اعلان کیا تھا، لیکن تاریخ ختم نہیں ہوئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری نوع یعنی انسانوں کی حقیقی تاریخ اس وقت شروع ہوگی کہ جب ہم انسان طبقاتی غلامی سے نجات حاصل کر لیں گے اور جب ہم اپنی قسمتوں اور زندگیوں پر دسترس حاصل کر سکیں گے۔ سوشلزم یہی ہوتا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ انسانیت کی ضرورت کی دنیا سے آزادی کی دنیا کی طرف جست۔ اکیسویں صدی کی دوسری دہائی میں انسانیت ایک دور ہے پر کھڑی ہے۔ ایک طرف جدید سائنس اور ٹیکنیک کی حاصلات نے ہمیں وہ ذرائع میسر کر دیے ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم ان سبھی مسائل اور محرومیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں جنہوں نے شروع تاریخ سے ایک طاعون کی طرح انسانوں کو اپنی پلیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ہم بیماریوں کو ختم کر سکتے ہیں، جہالت سے جان چھڑا سکتے ہیں، بے گھری سے چھٹکارا پاسکتے ہیں، صحراؤں کو گلزاروں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

دوسری طرف وہ راستہ ہے جہاں یہ سارے خواب حقیقت میں مذاق اور ایسے میں ڈھل جاتے ہیں۔ جہاں سائنس کی دریافتوں کو وسیع تباہ کاریوں کے سامان کی تیاری کیلئے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جہاں غربت، بھوک، جہالت اور بیماری عام ہے، جہاں انسانوں کی اذیتوں اور ذلتوں کا کوئی شمار نہیں ہے، جہاں بڑھتی ہوئی امیری محرومیوں کی دلدل کو اور بھی وحشی بناتی جاتی ہے، جہاں ہم ایک انسان کو چاند پر بھیج سکتے ہیں لیکن جہاں ہر سال 80 لاکھ انسان صرف بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، جہاں 100 ملین بچے پیدا ہوتے اور گلیوں میں ہی جیتے اور پھر مرتے ہیں اور جنہیں

اس دوران یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ  
چھت نام کی کوئی چیز بھی ہوا کرتی  
ہے۔

موجودہ صورتحال کا سب سے خطرناک ترین پہلو انتشار اور اضطراب ہے جس نے پورے  
کرہ ارض کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ معیشت، سیاست، سماجیات، سفارتکاری اور عسکریت،  
غرض ہر سطح پر عدم استحکام غالب آچکا ہے۔ لوگوں کی اکثریت اس ساری بربریت سے نالاں ہو  
چکی ہے اور وہ عاجز آکر ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس قسم کے رد عمل سے کوئی فرق نہیں  
پڑتا بلکہ اُلٹا اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مارکسزم ہمیں باور کراتا ہے کہ تاریخ کبھی  
بے معنی نہیں ہوتی۔ موجودہ صورتحال کسی طور کچھ مردوزن کے پاگل پن یا ان کی کسی موروثی برائی کا  
نتیجہ نہیں ہے۔ عظیم فلسفی سپوزا نے کہا تھا کہ ”نہ تو رونا ہے نہ ہی ہنسنا، بلکہ سمجھنا ہے۔“ یہ ایک بالکل  
درست فیصلہ ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس دنیا کو نہیں سمجھتے کہ جس میں ہم زندہ رہتے ہیں تو ہم اسے  
تبدیل کرنے کے کبھی قابل نہیں ہو سکیں گے۔

جب مارکس اور اینگلو کیونسٹ مینی فیسٹو لکھ رہے تھے تو وہ دونوں بالترتیب 29 اور 27 سال  
کے نوجوان تھے۔ وہ یہ سب ایک تاریک رجعتی عہد کے دوران لکھ رہے تھے۔ تب محنت کش طبقہ  
بظاہر بے عملی کی حالت میں تھا۔ مینی فیسٹو کو برسلسز میں لکھا گیا تھا جہاں دونوں مصنفین ایک جبری  
سیاسی جلاوطنی کے نتیجے میں مقیم تھے۔ جب کیونسٹ مینی فیسٹو پہلی بار فروری 1848ء کو منظر عام پر  
آیا، اس وقت پیرس کی گلیوں میں انقلاب سرگرم ہو چکا تھا اور کچھ ہی مہینوں میں اس نے سارے  
یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔

سوویت یونین کے انہدام کے بعد سرمایہ داری کے محافظین فئح کا جشن مناتے ہوئے  
پھولے نہیں سمارہے تھے۔ انہوں نے سوشلزم کے خاتمے، یہاں تک کہ تاریخ کے ہی خاتمے کا  
اعلان کر دیا۔ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ اب ہم سب کو امن، خوشحالی اور جمہوریت کے نئے  
عہد سے روشناس کرایا جائے گا اور یہ معجزہ آزاد منڈی کی معیشت کے ہاتھوں سامنے آنے والا  
ہے۔ اب صرف چندہ سالوں بعد ہی یہ سب دھواں ہو چکا ہے۔ ایسے واہموں کی ریت سے



عمارتیں نہیں کھڑی کی جاسکتیں۔

اس سب کے کیا معنی نکلتے ہیں؟ ہم ایک سماجی نظام کو ایک دردناک مرتی ہوئی حالت میں دیکھ رہے ہیں جو نہ تو جینے کی حالت میں واپس آسکتا ہے نہ ہی اپنی موت مرنے کیلئے تیار ہو رہا ہے۔ جنگیں، دہشت گردی، تشدد اور اموات یہ سب اس عہد کی خصوصیات ہیں جس میں ہم جی رہے ہیں۔ لیکن اسی عہد میں ہی ہم ایک نئے سماج، ایک نئے اور منصفانہ سماج کے جنم کے اثرات بھی محسوس کر رہے ہیں کہ جسمیں سبھی مردوزن حقیقی زندگی جی سکیں گے۔ ان تباہ کن واقعات اور حالات کے درمیان ہی ایک نئی قوت پیدا ہو رہی ہے۔ نوجوانوں، کسانوں اور محنت کشوں کی انقلابی قوت۔ اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کے دوران وینزویلا کے مرحوم صدر ہوگو شادیز نے کہا تھا ”لوگ جاگ رہے ہیں اور لوگ کھڑے ہو رہے ہیں۔“ یہ الفاظ ایک ٹھوس سچائی بیان کر رہے ہیں۔ کروڑوں لوگ عمل کے میدان میں اتر رہے ہیں۔ عراق کی جنگ سے قبل، اس کے خلاف کروڑوں انسان سڑکوں پر اٹھ آئے تھے۔ یہ بیداری کی شروعات کا اعلان تھا۔ لیکن تحریک سماج کو بدلنے کے مربوط پروگرام سے لیس نہیں تھی اور یہ اس کی بہت بڑی کمزوری تھی۔ تبدیلی سے بدگمان اور بدخواہ لوگوں کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہم اپنے راستوں سے ان سب کو ہٹاتے جائیں اور لڑائی کو آگے بڑھاتے جائیں۔ نئی نسل اپنی نجات کیلئے تڑپ اور آرزو مندی سے لبریز ہے۔ اسے ایک نعرہ، ایک نظریہ اور ایک پروگرام درکار ہے جو اسے متاثر کرتے ہوئے کامیابی کی طرف لے جاسکے۔ عالمی سوشلزم کی جدوجہد ہی وہ درکار نعرہ، نظریہ اور پروگرام ہے۔

کارل مارکس نے درست کہا تھا ”انسانی نسل کے سامنے دو انتخاب ہیں۔۔۔ بربریت یا سوشلزم!“

# ضمیمہ کارل مارکس کے ناقابل شکست نظریات

تحریر: فریڈ ویسٹن

ترجمہ: فرہاد کیانی

نجانے کتنی مرتبہ ہم نے یونیورسٹی پروفیسروں، ماہرین معاشیات، سیاست دانوں اور صحافیوں کو یہ دعویٰ کرتے سنا ہے کہ مارکس غلط تھا اور اگرچہ اسے سرمایہ داری کے متعلق تھوڑا بہت علم ضرور تھا لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام کی توانائی اور اسکی بحرانات سے نکل کر ہمیشہ آگے بڑھنے کی صلاحیت کو سمجھنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ لیکن گزشتہ چند برسوں کے دوران جب یہ نظام تاریخ کے بد

ترین بحران میں دھنستا چلا جا رہا ہے تو وقتاً فوقتاً ماہرین یہ کہتے پائے جا رہے ہیں کہ مارکس درست تھا۔ اس کی تازہ ترین مثال جریدہ 'ٹائم' میں 25 مارچ 2013ء کو چھپنے والا ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے 'مارکس کا انتقام: طبقاتی جدوجہد کے ہاتھوں بدلتی دنیا' پہلے تین پیروں کے شروعاتی جملے کچھ یوں ہیں کہ "کارل مارکس کب کا مر کر ڈن ہو چکا۔۔۔ لیکن یہ ہماری خام خیالی تھی۔۔۔ بڑھتے ہوئے شواہد ثابت کر رہے ہیں کہ شاید وہ درست تھا۔" پہلے پیرے میں لکھا ہے کہ مارکس کو مردہ اور مدفون تصور کیا جاتا تھا اور اس کی وجہ: سوویت یونین کا انہدام، طبقاتی جدوجہد کی شدت میں کمی، عالمی تجارت کا پھیلاؤ، ایشیا میں معاشی عروج وغیرہ وغیرہ۔

لیکن دوسرے پیرے میں اس نظام کو لاحق اس طویل بحران کو بیان کیا گیا ہے جو غربت اور بے روزگاری میں اضافے کے ساتھ اجرتوں میں کمی کا باعث بن رہا ہے۔ اس کے ساتھ مارکس کی تحریر نقل کی گئی ہے کہ "ایک جانب دولت کا ارتکاز درحقیقت عین اسی وقت دوسری جانب بد حالی، مشقت کی اذیت، غلامی، جہالت، ظلم اور ذہنی پسماندگی کا ارتکاز ہے۔" مصنف لکھتا ہے کہ "1983ء اور 2007ء کے دوران امریکہ میں دولت میں ہونے والے اضافے 74 فیصد امیر ترین 5 فیصد کے حصے میں آیا جبکہ غریب ترین 60 فیصد کے پاس جو کچھ تھا اس میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔۔۔"

یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ ابھی تک سب کچھ مارکس کے درست ہونے کی نشان دہی کر رہا ہے، مصنف حسب روایت لکھتا ہے کہ "اس کا یہ مطلب نہیں کہ مارکس مکمل طور پر درست تھا۔ اس کی پیش کردہ پروڈکٹوریٹی کی آمریت ٹھیک طور سے نہیں چل سکی۔" واضح طور پر یہ سوویت یونین کے انہدام کی طرف اشارہ ہے اور ایسا اس امید پر کیا گیا ہے کہ لوگ مارکس کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیں گے۔

یہ لوگوں کو مارکسزم سے ڈرانے کا پرانا طریقہ ہے۔ لوگوں کو احساس دلایا جاتا ہے اگرچہ مارکس نے سرمایہ داری کے تضادات کا ایک دلچسپ تجزیہ تو کر لیا لیکن وہ کوئی حقیقی اور قابل عمل متبادل پیش نہیں کر سکا اور اس لیے ہمیں اپنی قسمت پر صبر شکر کرتے ہوئے سرمایہ دارانہ نظام میں ہی گزارہ کرنا ہوگا۔

لیکن یہ صحافی اس حقیقت کو قصداً نظر انداز کرتے ہیں کہ سوویت یونین میں رائج نظام کیونزم نہیں تھا۔ مارکس نے کبھی بھی ایسے سوشلزم کی بات نہیں کی تھی جو کہ ایک ملک تک محدود ہو اور وہ بھی 1917ء کے روس جیسا پس ماندہ اور غیر ترقی یافتہ ملک۔ انقلاب روس کی قیادت کرنے والی بالشویک پارٹی کو تعمیر کرنے والے رہنما لینن نے بھی کبھی ایسا نہ سوچا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے کمیونسٹ انٹرنیشنل کی تعمیر میں اپنی تمام تر توانائی صرف کی اور جرمنی کے انقلاب سے اتنی بڑی امیدیں وابستہ کیں۔

”ایک ملک میں سوشلزم“ کا نظریہ پیش کرنے والا سٹالن تھا جس نے اس معاملے پر مارکسزم کے تمام بنیادی نظریات سے انحراف کیا۔ سوویت یونین میں ہونے والے عمل کے بارے میں ٹراٹسکی نے بہت لکھا ہے، خصوصاً اس کی عظیم کتاب ’انقلاب سے غداری‘ میں ایک صحت مند مزدور انقلاب کے طور پر شروع ہونے والے انقلاب روس کی وحشیانہ سٹالنٹ حکومت میں زوال پذیری کی معروضی وجوہات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نصاب کی کتابوں اور میڈیا میں یہ سب نہیں بتایا جاتا۔ سٹالن کے اقتدار کے سوویت یونین کو مارکس کے نظریات کا ناگزیر انجام بنا کر پیش کرنا بہت کارآمد ہے تاکہ نئی اور آنے والی نسلیں مارکس کی تحریروں کو پڑھنے کی جانب نہ جائیں۔ لیکن سرمایہ دار طبقے اور ان کے حواریوں کی بد قسمتی یہ ہے کہ آج شدید بحران کے ہاتھوں محنت کشوں اور نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ایک متبادل کی جستجو میں ہے۔

وہ جو چاہے کہتے رہیں، آج مارکس کے نظریات ماضی کی کئی دہائیوں کی نسبت کہیں زیادہ شدت کے ساتھ لوٹ کر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ عالمی پیمانے پر طبقاتی جدوجہد کا احیاء ہے۔ ٹائم میگزین کے مضمون میں لکھا ہے کہ ”اس بڑھتی ہوئی نابرابری کا نتیجہ مارکس کی پیش بندی کے عین مطابق ہے، یعنی طبقاتی جدوجہد کی واپسی۔ ساری دنیا کے محنت کشوں کا غصہ بڑھ رہا ہے اور وہ عالمی معیشت میں اپنے جائز حصے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امریکی کانگریس کے ایوان سے لے کر ایتھنز کی سڑکوں اور جنوبی چین کی پیداواری صنعتوں تک، سرمائے اور محنت کے درمیان کشیدگی سیاسی اور معاشی واقعات کا تعین کر رہی ہے اور اس کی شدت کی مثال بیسویں صدی کے کمیونسٹ انقلابات کے بعد نہیں ملتی۔“

اس مضمون میں بڑے دلچسپ انداز میں ذکر کیا گیا ہے کہ امریکہ میں او با ما اور ری پبلیکنز کے درمیان جاری لفظی میں بھی طبقاتی تضاد کا اظہار ہوتا ہے اور اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ بحران کی قیمت کس طبقے سے کس قدر وصول کی جائے۔ جب بھی او با ما امریکی سماج کے دولت مند حصوں پر ٹیکس بڑھانے کی بات کرتا ہے تو ری پبلکن اس پر طبقاتی جنگ کرنے کا الزام لگاتے ہیں جبکہ وہ خود محنت کشوں اور غریبوں کے خلاف طبقاتی جنگ میں مصروف ہیں۔

لیکن طبقاتی جدوجہد بحران زدہ امریکہ اور یورپ تک محدود نہیں۔ مصنف لکھتا ہے کہ جن ممالک میں حالیہ برسوں کے دوران قابل ذکر ترقی ہوئی ہے وہاں بھی طبقاتی جدوجہد میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی بڑی مثال چین ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ”اگرچہ چین کے شہروں میں اجرتوں میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے لیکن امیر اور غریب کا فرق بہت وسیع ہے۔ پیو (Pew) کی جانب سے کئے گئے ایک سروے میں تقریباً آدھے چینیوں کے خیال میں امیر اور غریب میں فرق بہت بڑا مسئلہ ہے، جبکہ 10 میں سے 8 افراد اس بات سے متفق ہیں کہ چین میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو رہے ہیں۔“

یہ مارکسسٹوں کے لیے قطعاً حیران کن نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سرمایہ داری کے اندر معیشت کی ترقی سماج میں محنت کش طبقے کے کردار کو مضبوط بناتی ہے اور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ناگزیر طور پر طبقاتی تناؤ کو جنم دیتی ہے، اگرچہ معاشی عروج ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی مثال ہمیں ماضی میں یورپ میں ملتی ہے جہاں عالمی جنگ کے بعد کے معاشی عروج کے دوران فرانس میں 1968ء اور اٹلی میں 1969ء میں طبقاتی جدوجہد کی تحریکیں پھٹ پڑیں۔

مضمون کے مطابق ایک چینی محنت کش پینگ من کہتا ہے ”باہر کے لوگوں کو ہماری زندگی میں بہت فراوانی نظر آتی ہے، لیکن درحقیقت کارخانے کے اندر زندگی اس سے بہت مختلف ہے۔۔۔ امیر محنت کشوں کا استحصال کر کے دولت کمار ہے ہیں۔۔۔ ہم کمیونزم کی راہ دیکھ رہے ہیں۔۔۔ محنت کش مزید منظم ہوں گے۔۔۔ تمام محنت کشوں کو متحد ہونا چاہیے۔“

امریکہ سے لے کر چین اور چین سے لے کر یونان سمیت دیگر کئی ممالک میں طبقات کے درمیان بڑھتی ہوئی کشمکش کا ایک جائزہ پیش کرنے کے بعد مصنف نتیجہ نکالتا ہے کہ ”ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مستقبل کی بہتری کے مخدوش امکانات کی وجہ سے دنیا بھر کے محنت کشوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ میڈیڈ اور ایتھنز جیسے شہروں میں لاکھوں افراد نے آسمان سے باتیں کرتی بیروزگاری اور حالات کو مزید بگاڑنے والی کٹوتیوں کے اقدامات کے خلاف مظاہرے کئے ہیں۔“

اس کے بعد وہ اس مضمون کو پڑھنے والے سرمایہ داروں کو تسلی دینے کے لیے لکھتا ہے کہ ”لیکن ابھی تک مارکس کے انقلاب نے عملی جامہ نہیں پہنا۔“ اس بات پر ہم متفق ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک سوشلسٹ انقلاب نہیں آیا۔ لیکن مصنف کو امید ہے کہ ایسا کبھی ہوگا بھی نہیں۔ اس بات سے ہم اتفاق نہیں کر سکتے۔

مصنف محنت کشوں کو اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ نظام کی تبدیلی نہیں چاہتے بلکہ اس میں اصلاحات کے خواہاں ہیں۔ اس کام کے لیے وہ یونیورسٹی آف پیرس کے نام نہاد ”ماہر مارکسزم“ یاک رانسینے کا سہارا لیتا ہے۔ رانسینے ان یونیورسٹی پروفیسروں میں سے ہے جو خود کو ترقی پسند ظاہر کرتے ہیں لیکن درحقیقت ہر وقت مارکسزم کے بنیادی نظریات کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً جب وہ کہتا ہے کہ ”مظاہرے کرتے ہوئے طبقات موجودہ سماجی و معاشی نظام کا تختہ الٹنے یا اس کی تباہی کا مطالبہ نہیں کر رہے۔ آج طبقاتی جدوجہد کا مطالبہ نظام کو درست کرنے کا ہے تاکہ دولت کی از سر نو تقسیم کر کے اسے طویل مدت کے لیے زیادہ قابل عمل اور پائیدار بنایا جا سکے۔“ پروفیسر رانسینے کا تجزیہ کہ محنت کش سوشلسٹ انقلاب کا مطالبہ نہیں کر رہے، سرمایہ دارانہ نظام کو قائم رکھنے کے خواہش مندوں کی تسلی کا باعث ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ”لیبر اور سوشلسٹ پارٹیوں اور ان کی حکومتوں کی کہیں بھی نئی صف بندی اور ان کے ہاتھوں موجودہ معاشی نظام کی تبدیلی کے امکانات بہت ہی محدود ہیں۔“

اس کے استدلال کی بنیاد ہر جگہ پر مزدور تحریک اور خصوصاً اس کے لیڈروں کی موجودہ

کیفیت ہے۔ اگر عالمی محنت کش طبقے کی تحریک کے مستقبل کا انحصار ان ہی لیڈروں پر ہے تو پھر پروفیسر صاحب درست ہیں۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لیڈر ساری زندگی لیڈر نہیں رہتے۔ نظام کا بحران تمام نظریات کا امتحان لے رہا ہے۔ نظام میں اصلاحات کے خیال پر اس نظام کے بندگی میں پھنس جانے سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ اب ماضی کی طرح اصلاحات کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ماضی کی دہائیوں میں طبقاتی جدوجہد کے ذریعے جیتی گئی تمام اصلاحات کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہر جگہ پر محنت کشوں کو دونوں پہلے کے حالات زندگی میں جھونکا جا رہا ہے۔ فرانسیسی پروفیسر کی باتوں سے لگتا ہے کہ انہیں اس بات کی سمجھ نہیں کہ ابتدا میں محنت کش یہ سوچ لے کر نہیں آتے کہ انقلاب ہی واحد راستہ ہے۔ شروعات میں وہ اجرتوں، حالات زندگی اور فلاح و بہبود پر ہونے والے حملوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ وہ نظام کے اندر رہتے ہوئے ہی کسی حل کی توقع کرتے ہیں۔ وہ معاشی عروج کے دنوں کی واپسی کا خواب دیکھتے ہیں جب اصلاحات ممکن تھیں اور زندگی کچھ قابل برداشت لگتی تھی۔ لیکن انہم بات یہ ہے کہ تجربات ان امیدوں کو توڑ ڈالیں گے۔

سارے یورپ، امریکہ، عرب، افریقہ اور ایشیا میں بڑے پیمانے کا سیاسی عدم استحکام ہے جس کا اظہار انتخابات میں ہو رہا ہے۔ ایک وقت میں مضبوط رہنے والی پارٹیاں حالات کے دباؤ کے زیر اثر برباد ہو چکی ہیں جس کی ایک مثال یونان کی پاسوک (PASOK) پارٹی ہے۔ محنت کش حکومت میں بیٹھ کٹوتی کرنے والی ہر جماعت کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں۔ یعنی محنت کش یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا نہیں چاہتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ کٹوتیوں کے خلاف لڑائی کے لیے درکار پالیسیوں اور پروگرام کو نہیں جان پائے۔

مارکسٹ ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، تب بھی جب اسے سمجھنا دشوار ہو۔ دنیا بھر کے محنت کشوں اور نوجوانوں کو درپیش مسائل کا سرمایہ دارانہ نظام کے اندر رہتے ہوئے کوئی حل ممکن نہیں ہے۔ جب تک طاقت سرمایہ دار طبقے کے ہاتھ میں ہے وہ اسے اپنی دولت اور مراعات کو بچائے رکھنے کے لیے استعمال کریں گے جس کا بوجھ محنت کش عوام کو اٹھانا پڑے گا۔ اس نظام میں اصلاحات نہیں کی جاسکتیں۔ اسے تبدیل کرنا ہوگا۔ ٹائم میگزین کے اس مضمون کا مصنف لکھتا ہے

کہ ”اگر پالیسی ساز منصفانہ معاشی مواقع کو یقینی بنانے کے نئے طریقے دریافت نہیں کرتے تو پھر دنیا بھر کے محنت کش ایک ہو سکتے ہیں۔ مارکس کا انتقام حقیقت بن سکتا ہے۔“

ہم سمجھتے ہیں کہ نہ صرف مارکس کا معاشی تجزیہ بلکہ اس سے اخذ کردہ سیاسی نتائج بھی درست تھے۔ نظام کا بحران ناگزیر طور پر دنیا بھر کے محنت کشوں کو انقلابی نتائج اخذ کرنے پر مجبور کرے گا۔ محنت کش طبقے کی بڑی تنظیموں، پارٹیوں اور ٹریڈ یونینوں میں ایک ریڈیکل تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ان کی موجودہ قیادت کو امید ہے کہ بحران ختم ہو جائے گا اور جلد یا بدیر وہ پہلے والی کیفیت میں لوٹ جائیں گے جہاں انہوں نے مالکان کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کر رکھے تھے۔ لیکن یہ دیوانے کا خواب ہے!

ہمیں کئی برسوں کی کٹوتیوں اور معیار زندگی میں شدید گراؤ کا سامنا ہے۔ یہ سمجھ آنے پر کہ کٹوتیوں کے مختصر عرصے کے بعد یہ بحران جانے والا نہیں اور اس نظام میں کوئی بہتر مستقبل نہیں، محنت کش طبقے کے پاس واحد راستہ اس نظام کا انقلابی طریقے سے خاتمہ ہوگا۔ موجودہ کیفیت اس جانب بڑھ رہی ہے۔۔۔



**Get more e-books from [www.ketabton.com](http://www.ketabton.com)  
Ketabton.com: The Digital Library**